

رنگین شمارہ

بَقِيصَاتُ مَدِينَةٍ
اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، مجتہدین و امت، شاہ
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ




بَقِيصَاتُ مَدِينَةٍ
سراج الائمہ، کاشف الغمہ، امام اعظم، فقیہ اقصیٰ حضرت سیدنا
امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ماہنامہ بقیصات مدینہ

(دعوتِ اسلامی)

شعبان المعظم ۱۴۳۸ھ
مئی ۲۰۱۷ء



امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ابوالہلال محمد الیاس عطار قادری رحمہ اللہ کی دعا

یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! جنہوں نے ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ کے لئے بھاگ دوڑ کی اور وقت دیا، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کی
قبر کو اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جلووں سے آباد فرما اور جس جس نے بھی اس میں داسے، درے، قدمے، سٹپے
حصہ لیا اور آئندہ بھی جو اس میں حصہ لیتے رہیں گے، ان سب کی بے حساب مغفرت فرما کر انہیں ثواب سے مالا مال فرما۔
اٰمِیْن بِحَاجِ النَّبِیِّ الْاَوْمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

دعوتِ اسلامی کی ہر روزی نفلِ شریف ہے قرآن
مولانا محمد عمران عطاری



شبِ براءت

اور

آتشِ بازی

غروبِ آفتاب سے آسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے: ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اُسے بخش دوں! ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اُسے روزی دوں! ہے کوئی مُصِیبت زدہ کہ اُسے عافیت عطا کروں! ہے کوئی ایسا! ہے کوئی ایسا! اور یہ اُس وقت تک فرماتا ہے کہ فجرِ طلوع ہو جائے۔ (ابن ماجہ، 160/2 حدیث: 1388) انہی فضائل کی وجہ سے شبِ براءت کے موقع پر اکثر مساجد میں شبِ بیداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عاشقانِ رسول عبادت کے ساتھ ساتھ ایسے پسندیدہ کام بھی کرتے ہیں مثلاً قرآن خوانی کرنا، اپنے مرحومین اور دیگر مسلمانوں کے ایصالِ ثواب کے لئے کھانا کھانا، قبرستانِ حاضر ہونا اور فاتحہ پڑھنا، فقرا و مساکین کی مدد کرنا وغیرہ۔ ان نیک اعمال سے ایمان کو تقویت ملتی، قلبی و روحانی سکون ملتا اور آخرت کی تیاری کا سامان ہوتا ہے۔

شبِ براءت کیسے گزاریں؟ شبِ براءت میں اعمالِ نامے تبدیل ہوتے ہیں اس لئے **دعوتِ اسلامی** کے مدنی ماحول میں 14 شعبان النعظم کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ اعمالِ نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو مساجد میں عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفلِ اعتکاف کیا جاتا ہے تاکہ اعمالِ نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظارِ نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے۔ غروبِ آفتاب کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ نمازِ مغرب باجماعت ادا کرنے کے بعد چھ نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جاتی ہے یوں شبِ براءت کا آغاز ہی نیکیوں سے کیا جاتا ہے۔ (ان نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ امیر اہل سنت کے رسالے ”آقا کا مہینا“ (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) سے پڑھ لیجئے اسی میں دعائے نصف شعبان بھی ہے) اس کے بعد عاشقانِ رسول کھانا کھاتے ہیں، نمازِ عشاء باجماعت ادا کی جاتی ہے، پھر اجتماعِ ذکر و نعت کا آغاز ہو جاتا ہے، میرے شیخِ طریقت، امیرِ اہل سنت دامت بركاتہم العالیہ ”مدنی مذاکرہ“ فرماتے ہیں، مبلغین دعوتِ اسلامی سنتوں بھرے بیانات کرتے ہیں، اجتماع کے اختتام پر پندرہ شعبان النعظم کے روزے کے لئے سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، شرکائے اجتماعات

میرا بچپن اور جوانی کے ابتدائی ایام باب المدینہ (کراچی) کے اولڈ سٹی ایریا میں گزرے، ہمارے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ شعبان النعظم کی پندرہویں رات پناخوں کی رات ہے۔ جب یہ رات آتی تو نوجوان ایک دوسرے کو یہ کہتے کہ ”پناخوں کی رات آگئی، پناخوں کی رات آگئی۔“ میں دیکھتا تھا کہ کئی جگہوں پر شعبان النعظم کا چاند نظر آتے ہی آتشِ گیر مادہ، بارود، پٹاخے اور آتش بازی کا دیگر سامان پس پردہ سجا کر رکھا جاتا جسے خرید کر بچے بے دریغ استعمال کرتے۔ شعبان النعظم کی پندرہویں رات آنے سے قبل ہی ماں باپ بچوں کو یہ سامان خریدنے کے لئے رقم دیتے اور کچھ خود ہی خرید کر لے آتے۔ جب یہ رات شروع ہوتی تو چاروں طرف سے آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی۔

اسی ماحول میں ایک وقت گزارا، پھر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلَیْہِ جَمِیْعًا مجھے غالباً 1991ء میں دعوتِ اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا، مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد پتا چلا کہ شعبان النعظم کی پندرہویں شب پٹاخے کی رات نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے براءت (چمکڑے) کی رات ہے۔ اس طرح کے فرامینِ مصطفیٰ (صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) سے بھی آگاہی ہوئی: 1 میرے پاس جبرائیل (عَلِیْہِ السَّلَام) آئے اور کہا یہ شعبان کی پندرہویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر مشرک اور عداوت (دشمنی) والے اور رشتہ کاٹنے والے اور (کثیر کے ساتھ تنہوں سے نیچے) کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظرِ رَحمت نہیں فرماتا۔ (شعب الایمان، 383/3، حدیث: 3873) 2 جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام (یعنی عبادت) کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ

نمبر شمار	سلسلہ	موضوع
1	فرباد	شب زبونت اور آتش بھڑی
2	حمد / اعت / محبت	میرا مولانا میرا مولانا / آنکھوں کا تارنا میرا محمد / بنو جانب سرور دو عالم اسلام اعظم ابو حنیفہ
3	تفسیر قرآن کریم	اسلام ہی ماہر اہل نجات ہے
4	صیغہ شریفہ اہل ان کی شرف	ہر نیک صحت ہے
5	اسلامی عقائد	انبیاء نے کرام علیہا السلام کے بارے میں عقائد
6	مدنی مذاکرے کے سوال جواب	چل صراط سے / کون کون گزری ہے / عمر / کس نے کچھ کہا کیا کیا؟ / انجمنی سے قسمت کا حال پوچھنا کیسا؟
7	ماہرہ (12) مدنی کام	نیک کی دعوت عام کرنے کے لئے "مدنی دورہ"
8	روحانی مستقبل	100 سال کی خیر
9	بچوں کا سفر	جھوٹ کی بدولت
10	*****	سبق یاد کرنے کے لئے طریقی
11	ماہرہ کی پہلی آزمائش نامی	گناہ اور ہنر
12	احقر رضا کاڑھنگیاں سے کچھ	زندگی کے ہر اہم لمحہ پر ایک نکتہ / اہل نجات کو ہماری نجات دہانہ ہوا ہے
13	دارالافتاء دارالعلوم	نورانی حقائق / کون کون گزری ہے / عمر / کس نے کچھ کہا کیا کیا؟ / انجمنی سے قسمت کا حال پوچھنا کیسا؟
14	روحانی سفر	حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام: نبی اللہ تعالیٰ علیہ
15	معاشرے کے سامنے	نور (دوسری اور آخری قسط)
16	*****	تذکرہ کرام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
17	مکتوبات امیر اہل سنت	شب کی بات دوسرے کی کتاب کو مانگنا / اہل حق کی عید کی مناسبت
18	آسمان کی نیکیاں	قبرستان کی حاضری
19	*****	محبت کا عظیم پیمانہ انسان اور خدمتِ صحت
20	*****	پیمانہ ایمان اہل سنت: نکتہ نشاندہ
21	مدنی ٹیکنیک روایتی علاج / ابتدائی طبی مدد	شوگر (diabetes) اور / (Heat stroke) گھٹنے کی صورت میں ابتدائی طبی مدد
22	افکار کی تشریح	یہ نیک حکماء کون ہیں؟ / اہل حق کی عید کی مناسبت
23	اسلامی زندگی	بابت کو جاننے کے لئے کیا کیا ہے؟
24	کیا دانا مانگنا ہے؟	بہو کو کیا ہوا مانگنا ہے؟ (قدون)
25	سنت اور محبت	پیشے کی مناسبتیں اور محبتیں
26	اداکار تجارت	موبائل کا کارڈ (Mobile Card)
27	دورانِ محبت / مسلمانوں کے ساتھ نیک چلنی	جبوری سے قاعدہ کو اٹھانے
28	بزرگوں کے پیچھے	حضرت یونس علیہ السلام: نکتہ نشاندہ / اہل نجات کو ہماری نجات دہانہ ہوا ہے
29	تاجروں کے لئے	تجارت شروع کرنے کے مدنی پھول
30	مدنی چیلوں کا کھیل	بچوں سے زیادہ مدنی / اہل حق کی عید کی مناسبت
31	نوجوانوں کے مسائل	کاہنوں کے لئے (تجربہ اور آخری قسط)
32	اسکھانوں اور بزرگوں کے فوائد	خیر و نفع اور شملہ مریض
33	تذکرہ کرامین	حضرت سیدنا اہل شہیدان: نکتہ نشاندہ
34	علم و محبت کے مدنی پھول	سب سے پہلے شہیدان: نکتہ نشاندہ / اہل نجات کو ہماری نجات دہانہ ہوا ہے
35	تذکرہ کرامات	اہل حقین: حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
36	اسلام نے عورت کو کیا دیا؟	اسلام نے عورت کو کیا دیا؟
37	اسلامی بچوں کے شرعی مسائل	اسلامی بچوں کے شرعی مسائل / عمر / کس نے کچھ کہا کیا کیا؟
38	سنتی عبادت اور اہل سنت کے سونے کی بات	مدنی کاموں کی باتیں اور اہل سنت کی دعائیں
39	انسانی شخصیات کے کارنامے	حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: نکتہ نشاندہ
40	*****	شخصیات کی مدنی تجزیہ
41	آپ کے جائزات اور حلالات	حلالے کرام: شخصیات، اسلامی جانوں اور اسلامی بچوں کے جائزات
42	توزیہ و محبت	انسان اور ان کے خصال پر تعزیرات / مولانا محمد شہید فاروقی قادری کی اللہ کے اقبال پر تعزیرات
43	اسپین بزرگوں کو یاد رکھنا	شہیدانِ انصاف: نکتہ نشاندہ / اہل نجات کو ہماری نجات دہانہ ہوا ہے
44	دعوتِ اسلامی کی مدنی خبریں	دعوتِ اسلامی کی مدنی خبریں
45	*****	اسلامی بچوں کی مدنی خبریں
46	*****	دعوتِ اسلامی کی خبر / ان ملک کی مدنی خبریں
47	May darul islami prospe!	Overseas Madani News
48	*****	Madani News of departments

فِيضَاتُ مَدِينَةِ

شماره: 5

جلد: 1

پیشکش: مجلس ماہنامہ فیضانِ مدینہ

ہدیہ فی شمارہ: (سادہ) 35
ہدیہ فی شمارہ: (رقمیں) 60
سالانہ ہدیہ مع ترسیل اخراجات (سادہ) 800
سالانہ ہدیہ مع ترسیل اخراجات (رقمیں) 1100
مکتبہ المدینہ سے وصول کرنے کی صورت میں
سالانہ ہدیہ (سادہ) 419
سالانہ ہدیہ (رقمیں) 720
ہذا پر ماہ شمارہ مکتبہ المدینہ کی کسی بھی شاخ پر رقم جمع کروا
کر سالانہ بھر کے لئے بارہ کوپن حاصل کریں اور ہر
ماہ کی شاخ سے اس مہینے کا کوپن جمع کروا کر اپنا شمارہ
وصول فرمائیں۔

بکنگ کی معلومات و شکایات کے لئے

Call: +922111252692 Ext:9229-9231

OnlySms/Whatsapp: +923131139278

Email:mahnama@maktabatulmadinah.com

ایڈریس ماہنامہ فیضانِ مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ
 ایرانی سبزی منڈی محلہ سوداگران باب المہدینہ کراچی

+92 21 111 25 26 92 Ext: 2660: فون

Web: www.dawateislami.net

Email: mahnama@dawateislami.net



مَنْقَبَات

ہو نائب سرورِ دو عالم، امام اعظم ابو حنیفہ

ہو نائب سرورِ دو عالم، امام اعظم ابو حنیفہ
 سِرِّ اَنْتَ قَبِيْہِ اَفْخَم، امام اعظم ابو حنیفہ
 ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت
 پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ
 حسد کی بیماری بڑھ چلی ہے، لڑائی آپس میں ٹھن گئی ہے
 شہا مسلمان ہوں مُنْتَظَم، امام اعظم ابو حنیفہ
 عطا ہو خوفِ خدا خُدارا، دو اَلَفْتِ مصطفیٰ خُدارا
 کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ
 تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں سائلِ عشقِ مصطفیٰ ہوں
 کرم چے شاہِ غوثِ اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ
 مروں شہا زیرِ گنبد، ہو مدفنِ آقا بقیعِ عَرَقْد
 کرم برائے رسولِ اکرم، امام اعظم ابو حنیفہ
 جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں سوسائیل
 دکھوں کا عطار کو دو مَرہم، امام اعظم ابو حنیفہ

دساکل بخشش، ص 73

از شیخ طریقت امیر اہل سنت دینار علیہ رحمۃ اللہ




نِعْت / اِسْتِغَاثَہ

آنکھوں کا تارا نام محمد

آنکھوں کا تارا نام محمد
 دل کا اُجالا نام محمد
 اللہ اَنْخَبِرْ رَبِّ اَعْلَانِ
 ہر شے پہ لکھا نام محمد
 رکھو لحد میں جس دم عزیزو
 مجھ کو عَنَّا نام محمد
 روزِ قیامت میزانِ وِیل پر
 دے گا سہارا نام محمد
 پوچھے گا مولیٰ لایا ہے کیا کیا
 میں یہ کہوں گا نام محمد
 اپنے رَحْمَا کے قُرْبَانِ جاؤں
 جس نے سکھایا نام محمد
 اپنے جَمِیلِ رَحْمَوٰی کے دل میں
 آجا سَما جا نام محمد

قائد بخشش، ص 73

از مداحِ محبوب محمد جمیل الرحمن خان علیہ رحمۃ اللہ



سَبَّ / مَنَاجَا

سب کا پیدا کرنے والا، میرا مولا میرا مولا

سب کا پیدا کرنے والا، میرا مولا میرا مولا
 سب سے افضل سب سے اعلیٰ، میرا مولا میرا مولا
 جگ کا خالق سب کا مالک، وہ ہی باقی، باقی ہا لک^(۱)
 سچا مالک سچا آقا، میرا مولا میرا مولا
 سب کو وہ ہی دے ہے روزی، نعت اُس کی دولت اُس کی
 رازِ بقِ داتا پائن ہارا^(۲) میرا مولا میرا مولا
 ہم سب اُس کے عاجز بندے، وہ ہی پالے وہ ہی مارے
 خوبی والا سب سے نیارا^(۳) میرا مولا میرا مولا
 اوّل آخر غائبِ حاضر، اُس کو روشن اُس پہ ظاہر
 عالمِ دانا واقفِ کُل کا، میرا مولا میرا مولا
 عزّت والا، حکمت والا، نعت والا، رحمت والا
 میرا پیارا میرا آقا، میرا مولا میرا مولا
 طاعتِ سجدہ اُس کا حق ہے، اُس کو پوجو وہ ہی رب ہے
 اللہ اللہ اللہ، میرا مولا میرا مولا

کتاب العقائد، ص 13

از صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ

ہا لک: ہلاک ہونے والا۔ پائن ہارا: پالنے والا۔ نیارا: نرا والا۔

اسلام ہی مدارِ نجات ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ترجمہ: بیشک اللہ کے

نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ (پ3، ال عمران: 19)

تفسیر: اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق اور پالنے والا ہے خواہ وہ کسی بھی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کو رزق دیتا اور سبھی کو حیات اور لوازماتِ حیات عطا فرماتا ہے۔ یہ سب سلسلہٴ تکوین یا آسان الفاظ میں نظامِ کائنات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں کی طرح صرف کھانے، پینے اور خواہشات پوری کرنے کے لئے پیدا نہیں فرمایا بلکہ ان کے لئے ایک خاص مقصدِ حیات مُتَعَيَّن فرمایا ہے، اس لئے انہیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا بلکہ حقیقی کامیاب زندگی گزارنے، مقصدِ حیات کو پورا کرنے اور بارگاہِ الہی میں **سُرُخرو** ہونے کے لئے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ذریعے اسلام کی صورت میں ہمیشہ ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا ہے اور اس سلسلہٴ ہدایت کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر مکمل فرمادیا۔ اب انہی کی بُت کا دور ہے اور انہی کی پیروی میں نجات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر صرف یہی دین ”اسلام“ ہے جیسا کہ درج بالا آیت میں بیان ہوا ہے۔ مزید تفہیم کے لئے اسی بات کو کچھ **تفصیل** سے بیان کیا جاتا ہے:

1 اگرچہ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا لیکن اب اسلام سے مراد صرف وہ دین ہے جسے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لے کر آئے ہیں۔ **2** ہمارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا دین اسلام ہی وہ آخری دین ہے جو

قیامت تک باقی رہے گا اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے حتمی، فیصلہ کن اور کامل دین قرار دیا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، ارشاد فرمایا: ﴿الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَاسْتَبْسَمْتُ عَلَیْكُمْ بَعِثْتُ فِيْكُمْ رَسُوْلًا لَّكُمْ اِسْلَامًا دِیْنًا﴾ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔ (پ6، المائدہ: 3)

3 اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز مقبول نہیں خواہ وہ بت پرستی، آتش پرستی، مظاہر پرستی کا دین ہو یا کوئی آسمانی کہلانے والا دین، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْہٗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ﴾ ترجمہ: جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔ (پ3، ال عمران: 85)

4 ہمارے نبی حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قیامت تک تمام انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آخرت کی کامیابی، جہنم سے چھٹکارا اور جنت کے حصول کی قطعی شرط اب نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں محمد (صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی جان ہے! اس اُمت میں سے جو آدمی بھی خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، میری نبوت کی خبر سنے، پھر وہ اس شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ (مسلم، ص82، حدیث: 386)

بقیہ صفحہ 11 پر ملاحظہ فرمائیے!

ہر نیکی صدقہ ہے

مفتی محمد شفیع عطاری مدنی



کیا صدقہ صرف مال سے ہی ہوتا ہے؟

علامہ ابن رجب حنبلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: غریب صحابہ یہ گمان کرتے تھے کہ صدقہ صرف مال سے ہی ہو گا اور وہ مال سے محروم ہیں تو رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں خبر دی کہ نیکی اور بھلائی کے تمام کام صدقہ ہیں۔ جس صدقے میں مال خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کی دو قسمیں ہیں:

(1) جس کا فائدہ مخلوق کو پہنچتا ہے اور یہ مخلوق پر صدقہ ہوتا ہے جو بسا اوقات مال صدقہ کرنے سے افضل ہوتا ہے اس کی مثال نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا اور گناہوں سے روکنا ہے اور یہ مال سے ملنے والے منافع سے بہتر ہے کسی کو علم نافع سکھانا قرآن پاک پڑھانا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا لوگوں کو فائدہ دینے اور اُن سے اذیت دور کرنے والے کاموں میں جلدی کرنا اور مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت کرنا بھی اسی میں شامل ہیں۔

(2) جس کا فائدہ کرنے والے کو ملتا ہے جیسے تسبیح تکبیر یعنی اللہ اکبر، سُبْحَانَ اللّٰہ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کہنا، اِسْتِغْفَار کرنا مسجد کی طرف جانا بھی صدقہ ہے اور ان میں سے اکثر اعمال مالی صدقات سے افضل ہیں کیونکہ یہ اُن غریب صحابہ کے جواب میں فرمائے گئے ہیں جنہوں نے اُغْنِیَا کے مال کو خرچ کر کے سبقت لے جانے پر غمگین ہو

کر سوال کیا تھا۔ (جامع العلوم والحکم، ص 295-300)

حضرت جابر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

”کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ کُنِبَ لَهُ صَدَقَةٌ“

ہر نیکی صدقہ ہے اور بندہ جو بھی چیز اپنی جان اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اس پر بندے کے لئے صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

(متدرک، 2/358، حدیث: 2358)

یہ حدیث مبارک اپنے مضمون و مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتی ہے اور اس میں غریب سے غریب شخص کے لئے بھی صدقہ کی بشارتیں ہیں کیونکہ صدقہ جس طرح مال کے ذریعے ہوتا ہے ایسے ہی نیکی کے کاموں کے ذریعے بھی ہوتا ہے یعنی صدقہ کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔

ہر بھلائی صدقہ ہے

علامہ قسطلانی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْہَاوِی فرماتے ہیں: ہر وہ اچھا کام جو انسان کرتا ہے یا جو اچھی گفتگو کرتا ہے جس کو شریعت نے پسند فرمایا یا ناپسند بات سے منع کرتا ہے وہ اس کے لئے صدقہ لکھی جاتی ہے۔ (ارشاد الساری، 13/54) ایک روایت میں ہے: ہر بھلائی صدقہ ہے وہ بھلائی امیر کے ساتھ ہو یا غریب کے ساتھ۔ (حلیۃ الاولیاء، 3/57، رقم: 3155) امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ہر نیکی صدقہ ہے یعنی جو بھی اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب مال صدقہ کرنے والے کے ثواب کی مثل ہے۔

(الدر بیان للبیوطی، 3/77)

مسائل عقائد

محمد عبد الماجد عطاری مدنی

ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام۔ بعض انبیائے کرام علیہم السلام مرتبے میں بعض سے اعلیٰ ہیں اور سب سے بڑا رتبہ ہمارے آقا و مولیٰ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ (14) انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں اُسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، (15) جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدۃ الہیہ (یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس) کے لئے ایک آن کو اُن پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے، اُن کی حیات، حیات شہدا سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ (16)

- (1) (شرح القاصد، 3/268) (2) (المسارعة، ص 231) (3) (روح المعانی، 4/531) (4) (تفسیر قرطبی، 5/193) (5) (المسارعة، ص 226-227) (6) (المسارعة، ص 226) (7) (الایقیت والحواجر، ص 224) (8) (شرح عقائد نسفیہ، ص 298) (9) (تفسیر خازن، 1/196) (10) (تفسیر خازن، 2/33) (11) (جواہر الجملہ، 3/260) (12) (تفسیر روح البیان، 3/394) (13) (المسارعة، ص 225) (14) (تفسیر کبیر، 2/521) (15) (ابن ماجہ، 2/291، حدیث: 1637) (16) (تخیل الایمان، ص 122)

چند منٹ میں نصف، تہائی اور چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: إِذَا زِلْزَلَتْ نِصْفُ قرآن کے برابر ہے (1) اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تہائی قرآن (یعنی 10 پاروں) کے برابر ہے (2) اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (3) (ترمذی، 4/409، حدیث: 2903)

(1) یعنی سورۃ اِذَا زُلْزَلَتْ کی تلاوت میں پندرہ پارے تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ (مرآۃ المناجیح، 3/249) (2) یہ سورت (یعنی سورۃ اخلاص) قرآن کریم کے تہائی کا ثواب رکھتی ہے۔ (مرآۃ المناجیح، 3/233) (3) یہ سورت (یعنی سورۃ کافرون) چار بار پڑھنے سے پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ (مرآۃ المناجیح، 3/249)



انبیائے کرام وہ انسان ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بھیجتا ہے۔ (1) ان میں سے جو نبی شریعت لائے انہیں رسول کہتے ہیں۔ (2) دنیا میں سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ سے ہی انسانی نسل چلی، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ”أَبُو النَّبِیِّ“ (انسانوں کا باپ) کہتے ہیں۔ (3)

انبیائے کرام سب انسان تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ (4) انبیائے کرام شرک و کفر بلکہ ہر قسم کے گناہ اور ہر ایسے عیب سے پاک ہوتے ہیں جو مخلوق کے لئے باعث نفرت ہو۔ (5) اللہ تعالیٰ انہیں عقل کامل عطا فرماتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ان کی عقل کے کروڑوں درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ (6) نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کوئی شخص عبادت وغیرہ کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ (7) اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کو معجزات عطا فرماتا ہے جو اُن کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ (8) اور انہیں غیب پر مطلق فرماتا ہے۔ (9) انبیائے کرام تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ (10) ان کی تعظیم و توقیر فرض (11) اور ان کی ادنیٰ توہین یا تکذیب (انکار کرنا) کفر ہے۔ (12) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بے شمار نبی اور رسول بھیجے، ان کی صحیح تعداد وہی جانتا ہے کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں لہذا یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ (13) کہنا ہی ہو تو یوں کہا جائے: کم و بیش

مذکر کے سوال جواب

شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوالحسن علی دہلوی مدظلہ العالی کا فتویٰ ہے کہ، مذکر کے مسائل اور معاملات کے متعلق کئے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، ان میں سے چند سوالات و جوابات ضروری ترمیم کے ساتھ یہاں درج کئے جارہے ہیں۔

پہلے صراط سے کون کون گزرے گا؟

سوال: پہلے صراط سے صرف مسلمان ہی گزریں گے یا کفار بھی گزریں گے؟

جواب: پہلے صراط سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی گزریں گے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل پارہ 16 سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتًّا مَقْصُوبًا ۖ ثُمَّ تُنَجَّى الَّذِينَ آمَنُوا فَتَنْزِيلُ الْغُلَامِ ۚ فِيهَا جَذَبٌ ۚ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو پچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

مشہور مفسر قرآن، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ "نور العرفان" میں آیت مبارکہ کے اس حصے ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو کے تحت فرماتے ہیں: کیونکہ دوزخ جنت کے راستہ میں ہے۔ دوزخ پر پہلے صراط ہے سب وہاں سے گزریں گے کفار پانہ لگ سکیں گے، مومن پار لگ جائیں گے کوئی نور نظر کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح گزریں گے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے ﴿ثُمَّ تُنَجَّى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم ڈر والوں کو پچالیں گے کے تحت فرماتے ہیں: یعنی مسلمانوں کو پہلے صراط پر بھی دوزخ کی گرمی نہ چھوئے گی بلکہ دوزخ کی آگ پکڑے گی کہ اے مومن! جلد گزر جا تیرے نور نے میری لپٹ بچا دی۔ آیت مبارکہ کے اس حصے ﴿وَتَنْزِيلُ الْغُلَامِ ۚ فِيهَا جَذَبٌ ۚ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے کے تحت فرماتے

ہیں: جو پہلے صراط سے پھسل کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ کافر وہاں ہمیشہ رہیں گے اور بعض گنہگار مومن جو گر جائیں گے اپنی سزا بھگت کر نکال دیئے جائیں گے۔ یہاں ظالم سے مراد کافر ہے اور چھوڑ دینے سے مراد ہمیشہ وہاں رکھنا ہے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

مرغی کے پنچے کھانا کیسا؟

سوال: مرغی کے پنچے کھانا کیسا ہے؟

جواب: مرغی کے پنچے (یعنی ناگیں) کھانا جائز ہے۔ میں ان کو "غریبوں کے پائے" کہتا ہوں کیونکہ غریبوں کا اس مہنگائی کے دور میں گائے، بھینس یا بکرے کے پائے کھانا مشکل ہو گیا ہے جبکہ مرغی کے پنچے سستے ہوتے ہیں اور یہ باب المدینہ (کراچی) بلکہ دیگر کئی شہروں میں مل سکتے بھی ہیں۔ انہیں پھینک دینے کے بجائے ان پر کچھ دیر کے لئے آٹا یا نمک لگا کر رکھیں اور پھر گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ اب چاہیں تو پورے ہی یا پھر دو ٹکڑے کر کے پکالیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ہوائی جہاز میں کھانے پینے کی احتیاطیں

سوال: ہوائی جہاز میں مختلف اشیاء کھانے پینے کے لئے دی جاتی ہیں تو کیا انہیں کھا سکتے ہیں؟

جواب: ہوائی جہاز میں کھانے پینے بالخصوص گوشت کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہئے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اپنی سیٹ

آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔“ (بہارِ شریعت، 1/447) لہذا اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج کی پہلی کرن چمک گئی تو اب نماز نہیں ہوگی ورنہ ہو جائے گی، کیونکہ روشنی تو صبح صادق کے وقت سے ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ بعض اوقات موسمِ ابرِ آلود ہوتا ہے اور سورج نظر ہی نہیں آتا بلکہ سنا ہے کہ یو۔ کے (U.K) وغیرہ میں تو سورج بہت کم نظر آتا ہے تو ایسے موقع پر اپنے اپنے شہروں یا ملکوں کے ”نقشہ برائے اوقاتِ نماز“ کے مطابق نماز ادا کی جائے۔⁽¹⁾

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

نجوی سے قسمت کا حال معلوم کرنا کیسا؟

سوال: نجوی سے اپنے مسائل معلوم کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: نجوی سے قسمت کا حال دریافت کرنا یا اس سے آئندہ کی خبریں معلوم کرنا شرعاً ”ناجائز“ ہے۔ احادیثِ مبارکہ میں نجویوں اور کاهنوں کی بڑی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔⁽²⁾ اسی طرح طوطے سے بھی اپنی قسمت کا حال نکلوانا شرعاً جائز نہیں۔ نہ جانے انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی قسمت کا حال طوطے کے حوالے کر دیتا ہے!

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

①..... دعوتِ اسلامی کی مجلسِ توحید نے ملک و بیرون ملک کے اوقاتِ نماز کے نقشے جاری کئے ہیں جو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کئے جاسکتے ہیں، نیز دنیا بھر کے اوقاتِ نماز جاننے کیلئے دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے کمپیوٹر، اینڈ رائیڈ اور آئی فون وغیرہ کیلئے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔

②..... رسولِ اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو کسی نجوی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو گویا اس نے اُس کا انکار کر دیا جو (حضرت) محمد صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نازل کیا گیا۔

(مشترک حاکم، 1/153، حدیث: 15)

نک کروانے سے کم از کم ڈبل بارہ (یعنی 24) گھنٹے پہلے اپنے نام کے ساتھ کمپیوٹر میں ایشین و گیٹھیرین (Asian Vegetarian) کی انٹری کروادیں تو آپ کو مناسب مریج مسالے والا کھانا مل جائے گا، اگر صرف و گیٹھیرین (Vegetarian) کی انٹری کروائیں گے تو اس میں مریج وغیرہ نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی اور پھر کچھ کچھ سا ہوگا، یا پھر فیش فوڈ (Fish Food) کی انٹری کروالیں کہ اس میں آپ کو مچھلی کا کھانا پیش کیا جائے گا۔ سی فوڈ (Sea Food) کی انٹری مت کروائیے کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے کہ کھانے میں کیکڑے یا آکٹوپس (Octopus) وغیرہ ہوں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

جلد سے جلد قضا نمازیں ادا کر لیجئے

سوال: ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: جتنی طاقت ہو اتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ ایک دن میں پانچ نمازوں کے ساتھ صرف پانچ نمازیں ہی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی پر قضا عمری نمازیں ہیں تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے کاروبار، کھانے پینے اور دیگر ضروری کاموں کے علاوہ فارغ اوقات میں قضا عمری ادا کرے تاکہ جلد سے جلد وہ ان سے فارغ ہو جائے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسا نہیں ہے۔

(قضا نمازوں کے مزید احکام جاننے کیلئے 25 صفحات کا رسالہ ”قضا نمازوں کا طریقہ“ (حنفی) (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ کیجئے۔)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

فجر کی نماز کے دوران روشنی ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟

سوال: سورج نکلنے سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے روشنی ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟

جواب: سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز کا سلام پھیرنا ضروری ہے کیونکہ ”فجر کا وقت طلوعِ صبح صادق سے

نمازوں کی پابندی اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کے عزم کے ساتھ گھروں کو جاتے ہیں۔

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! شب براءت بڑی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے مگر افسوس! افسوس! آج بھی ہمارے معاشرے میں شب براءت کے بارے میں درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک تعداد اس رات کو غفلت بلکہ گناہوں میں گزارتی اور اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے، جس میں آخرت کا سخت نقصان ہے۔ ایسے لوگوں کو **دنیادی**

نقصانات کا بھی سامنا ہوتا ہے جس کا اندازہ اخبارات کی مندرجہ ذیل خبروں سے لگایا جاسکتا ہے: 10 مئی 2016ء مرکز الاولیاء (لاہور، پاکستان) ایک بچے نے ماچس پٹاخہ چلا کر ہمسائے کے گھر پھینک دیا، جس سے گھر میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر تباہ ہو گیا۔ 23 مئی 2016ء رانی پور (باب الاسلام سندھ، پاکستان) میں پٹاخوں سے بجلی کی تاریں جل گئیں۔ تھل (پاکستان) ماچس پٹاخے سے جھگی میں آگ لگ گئی، 5 سالہ بچہ آگ سے جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ 07 فروری 2010ء یوپی ہند کے علاقے سلطانپور میں پٹاخوں سے چھپر میں آگ لگ گئی اور ایک ہی خاندان کے 14 افراد زندہ جل گئے۔ 12 نومبر 2015ء کٹیہار، ہند میں پٹاخوں سے دو گھروں میں آگ لگ گئی، جس سے دونوں گھر جل کر راکھ ہو گئے۔

پٹاخوں کے علاوہ اب تو دنیا بھر میں **آتش بازی** کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں آتش بازی کا مظاہرہ کرنے کے لئے کی جانے والی سالانہ خرید و فروخت کی رقم کا مجموعی طور پر تخمینہ سامنے لایا جائے تو کروڑوں ڈالر (ارہوں روپے) بنے گا۔ دنیا بھر میں آتش بازی کے واقعات میں سالانہ سینکڑوں افراد ہلاک اور کئی لاکھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات مختلف قومی و مذہبی تہواروں اور سالانہ نوے کے جشن پر کی جانی والی آتش بازی کے دوران پیش آتے ہیں۔ چند اخباری رپورٹس ملاحظہ فرمائیے: یکم جنوری 2005ء ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں آتش بازی کے نتیجے میں آگ لگ گئی، کم از کم 200 افراد جل کر ہلاک اور 400 سے زائد شدید زخمی ہو گئے۔ 2002ء برطانیہ

میں نیو ایئر نیٹ کی آتش بازی نے 1362 افراد کو متاثر کیا، متعدد لوگ اپنے اعضاء سے محروم ہوئے، چالیس گھروں کو آگ لگی، 500 گاڑیاں تباہ، 4825 جانور جل کر مر گئے۔ 2004ء پیراگوئے میں آتش بازی کے سبب 400 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ نیدرلینڈ کے ایک شہر میں آتش بازی کی فیکٹری میں 900 کلو دھماکے دار مواد پھٹنے سے 23 افراد ہلاک جبکہ 947 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے 100 ایکڑ اراضی تک بڑی تباہی ہوئی، 15 گلیوں پر مشتمل 1500 عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ 400 گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ تباہی کے سبب 1250 افراد بے گھر ہو گئے۔ نقصان کا تخمینہ (اندازہ) 454 ملین یورو، یعنی 50 کروڑ 94 لاکھ 56 ہزار ڈالر لگایا گیا ہے۔

آتش بازی کا شرعی حکم امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب براءت میں رائج ہے بیشک حرام اور پورا حرم ہے کہ اس میں تصبیغ مال (مال کو ضائع کرنا) ہے، قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا: **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمًا لِلْأَعْيُنِ حَافِيَةً فَمَنْ يَبْغِ الْفِتْنَةَ يَكُنْ لِلْأَعْيُنِ حَافِيَةً﴾** (پ 15، بی اسراء، 26-27) (ترجمہ کنزالایمان: اور فضول نہ اڑا، بیشک اڑانے والے (فضول خرچہ کرنے والے) شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے) (فتاویٰ رضویہ، 23/ 279)

آتش بازی کا موجد کون؟ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جبکہ اُس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اسکے آدمیوں نے آگ کے اتار بھر کر اُن میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ (اسلامی زندگی، 77) اس لئے خود بھی اس سے بچنے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ میری تمام عاشقانِ رسول سے **فریاد** ہے کہ خدا ار اپنے حال پر رحم فرمائیے، دنیا و آخرت کے نقصانات سے بچنے کے لئے اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ آنے والی شب براءت کے مبارک لمحات کو پٹاخوں اور آتش بازی میں برباد کرنے کے بجائے عبادت میں گزارئیے اور دن کا روزہ بھی رکھئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاُمِّيْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے ”مدنی دورہ“

”نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا“ وہ عظیم منصب ہے جو اللہ عزوجل نے اپنے انبیائے کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا، خاتم النبیین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو نیکی کی دعوت کا یہ منصب محمدیہ کو عطا ہوا۔ اللہ عزوجل نے اس اُمت کی خصوصیت کو یوں بیان فرمایا ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ترجمۂ کنز الایمان: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ (پ: 4، اہل عمران: 110)

اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے اس اُمت کی وجہ فضیلت ”نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا“ ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین و تبع تابعین نے اس ذمہ داری کو خوب نبھایا، جوں جوں زمانہ رسالت سے دوری ہوتی گئی مسلمانوں میں اس فریضہ کی ادائیگی میں سستی آتی گئی۔ آج مسلمانوں کی اکثریت بے عملی کا شکار ہے، جو لوگ نیکیوں کی طرف راغب ہیں ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ ”یاشیخ اپنی اپنی دیکھ“ پر کاربند ہیں حالانکہ صرف اپنی اصلاح ہی کی فکر کرنا اور دوسروں کی طرف سے غفلت برتنا دنیا و آخرت میں خسارے کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہو گا۔ مدعی علیہ (یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا) کہے گا: تیرا مجھ پر

کیا حق ہے؟ میں تو تجھ کو (صحیح سے) جانتا بھی نہیں۔ مدعی (یعنی دعویٰ کرنے والا) کہے گا: تو مجھے گناہ کرتے دیکھتا تھا اور منع نہیں کرتا تھا۔ (الترغیب والترہیب، 3/186، حدیث: 3546)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ دُعوتِ اسلامی دُنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے جن ذرائع کو اختیار کئے ہوئے ہے ان میں سے ایک ”مدنی دورہ“ بھی ہے، اس مدنی کام میں ہفتے میں ایک دن (مثلاً بروز بدھ) ہر مسجد کے اطراف میں گھر گھر، دکان دکان جا کر گھروں اور دکانوں میں موجود نیز راہ میں کھڑے ہوئے اور آنے جانے والے تمام افراد کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور انہیں اللہ عزوجل اور اس کے پیارے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آن پہنچے اور لازم ہونے کے باوجود دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دینے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے، آئیے! ”مدنی دورہ“ میں عملی طور پر شامل ہو کر نیکی کی دعوت کی دھو میں مچانے کی سعادت عطیٰ حاصل کیجئے، ہفتے میں ایک دن مخصوص کر کے اپنے ذیلی حلقے (کی مسجد اور اسکے اطراف) میں گھر گھر، دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت ضرور دیجئے (رہائشی علاقوں میں عصر تا مغرب یا مغرب تا عشاء کا روپاری خراڑ میں ظہر یا عصر سے پہلے)۔ **رمضان المبارک** میں نماز ظہر سے پہلے ”مدنی دورہ“ کرنا مناسب ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد لوگ افطاری وغیرہ کا سامان خریدنے اور گھر پہنچنے کی جلدی میں ہوتے ہیں۔

”مدنی دورہ“ کے شرکاء میں ایک داعی ہوتا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، ایک رہنما جو مختلف دکانوں، چوکوں وغیرہ میں لے کر جاتا اور مدنی قافلے والوں کا تعارف کرواتا ہے، ایک نگران اور ہتھیہ خیر خواہ ہوتے ہیں جو اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت سننے کے لئے جمع کرتے ہیں، آپ داعی، رہنما یا خیر خواہ کوئی سی بھی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ”مدنی دورہ“ کی دھو میں نچا دیجئے۔ علاقہ سطح پر ”مدنی دورہ“ کی ایک مجلس بنائیے جو باقاعدگی سے مقررہ دن ”مدنی دورہ“ کرے۔ ممکن ہو

کرنا پڑا، البتہ جب میں نے نیکی کی دعوت دی اور اپنے حال ہی میں مسلمان ہونے کا بتایا تو وہاں موجود لوگ رونے لگے اور کبھی ہمارے ساتھ مسجد میں چلنے کیلئے تیار ہو گئے، نماز عصر میں ہم دو نمازی تھے مگر حیرت انگیز طور پر نماز مغرب میں تین صفیں بن گئیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے: ”میں ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو گیا ہوں، آج پہلی بار انہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں۔“ (مخلص از، تذکرہ امیر اہل سنت، قسط: 1، ص 21)

”مدنی دورہ“ کا تفصیلی طریقہ کار جاننے کے لئے کتاب ”نیک بننے اور بنانے کے طریقے“ اور رسالہ ”بارہ مدنی کام“ (مطبوعہ مکتبہ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ”12 مدنی کاموں“ کے الگ الگ رسائل مکتبہ المدینہ سے شائع ہو رہے ہیں، عنقریب ”مدنی دورہ“ کا رسالہ بھی منظر عام پر آنے والا ہے۔ اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ جو نیکی کی دعوت کی دھو میں چھائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ

تو روزانہ ہی یہ سعادت پائیے، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **امیر اہل سنت دامت برکاتہم اعلیٰ** کے ترغیب دلانے پر کئی اسلامی بھائیوں نے روزانہ ”مدنی دورہ“ کرنے کی ترکیب بنائی جیسا کہ باب المدینہ کراچی میں پاک نوری کابینہ کے ڈویژن نگاہ مرشد، علاقہ ضیائی کے اسلامی بھائیوں نے ”مدنی دورہ“ کی مجلس بنا کر روزانہ ”مدنی دورہ“ کرنے کی ترکیب کی اور اس کی کارکردگی امیر اہل سنت دامت برکاتہم اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دُعائیں لیں۔ (ماہنامہ فیضان مدینہ (مارچ)، ص 25) **مدنی دورہ کی مدنی بہار** (دہلی (ہند) کے علاقہ سلیم پور کے نو مسلم (New Muslim) نوجوان اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد مختلف علاقوں میں مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے ”فتوح“ شہر کے محلہ ”کاغزیانی“ میں جب ”مدنی دورہ“ کیلئے پہنچا تو وہاں کی ”پُرانی مسجد“ کے سامنے والا میدان لوگوں سے بھر پایا، کوئی تاش کھیلنے میں تو کوئی جوئے میں مصروف تھا۔ میں نماز عصر کے بعد ان لوگوں کے پاس نیکی کی دعوت دینے کیلئے حاضر ہوا، اولاً کچھ نامناسب رویے کا سامنا

بقیہ تفسیر قرآن کریم

5 جو دین اسلام پر نہیں یا اس دین پر تھا اور پھر چھوڑ دیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ قرآن میں انتہائی واضح، صاف، صریح، غیر مبہم الفاظ میں ایک آدھ جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ بیان فرما دیا ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ماننے والے یعنی مسلمان ہی نجات پانے والے ہیں اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے منکر خواہ مشرک ہوں یا مرتد یا دیگر آدیان کے پیروکار وہ سب بلا شک و شبہ جہنمی ہیں۔ ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَیَسْتَوْھُوْا کَافِرًا وَّلَیْکَ حَیْضٌ اَعْمَالُہُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ﴾ ﴿ترجمہ: اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مرجائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں

برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

(پ 2، البقرہ: 217)

قرآن و حدیث کی قطعی تعلیمات و تصریحات کی روشنی میں درج ذیل عقائد ہمارے دین کے بنیادی عقائد ہیں:

- 1 اسلام ہی آخری، مقبول اور نجات دلانے والا دین ہے۔
- 2 اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرنا خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں خواہ وہ سابقہ آسمانی دین ہو یا کفر و شرک کا کوئی اور دین۔
- 3 کوئی شخص عبادات و اخلاقیات کی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے جب تک وہ مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا تب تک آخرت کے ثواب کا مستحق نہیں، ہاں دنیا میں اسے اچھے اعمال کا بدلہ مل سکتا ہے۔
- 4 اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو ماننا فرض ہے اور ان سے کسی طرح زور گردانی کی اجازت نہیں۔ اللہ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور حالت ایمان میں عافیت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔

100 سال کی نیند

دونوں کی تروتازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا اور اُس کے اعضا بھی دکھ گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آرہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضا جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال آگئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ قدرتِ خداوندی کا یہ شاندار و بے مثال نمونہ دیکھتے ہی آپ ﷺ کی زبان پر جاری ہو گیا: میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ﷻ ہر چیز پر قادر ہے۔

(ماخوذ از صراطِ الجنان، 1/ 391)

حکایت سے حاصل ہونے والے مَدَنی پھول

پیارے مَدَنی مَنُوں اور مَدَنی مَنیو! ہمارا پیارا اللہ ﷻ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ ﷻ نے 100 سال بعد نہ صرف حضرت عَزِیزِ عَلَیْہِ السَّلَام کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے گدھے کو بھی زندہ کیا اسی طرح بروزِ قیامت اللہ ﷻ سب لوگوں کو حساب کتاب کے لئے زندہ فرمائے گا۔ عربی مقلوب ہے: ”الْكُتُومُ اُخْتُ الْمَوْتِ“ یعنی نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ ہمیں چاہئے کہ جب بھی سونے لگیں تو توبہ کر کے سوئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سوتے ہی نہ رہ جائیں۔ زہے نصیب! ہم روزانہ سونے سے پہلے دو رکعت نمازِ نفل (سلوۃ اللہ) ادا کر کے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم سونے سے پہلے سنت کے مطابق دُعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں گے تو ان شاء اللہ ﷻ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔

ایک مرتبہ اللہ ﷻ کے نبی حضرت سَیِّدُنا عَزِیزِ عَلَیْہِ السَّلَام کا ”بَیْتُ الْمَقْدِس“ (فلسطین) سے گزر ہوا، آپ ﷺ کا زاوراہ (یعنی سفر کا سامان) ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور (Grapes) کا رَس تھا نیز آپ ایک دَرَّازِ گوش (Donkey) پر سوار تھے۔ آپ ﷺ بَیْتُ الْمَقْدِس کی تمام بستیوں میں پھرے لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا اور سب عمارتیں گری ہوئی تھیں، اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ ﷺ نے تعجب سے کہا: ﴿اَئِنِّي بِحُجْرٍ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (پ، 3، البقرة: 259) (ترجمہ کنز العرفان: اللہ! انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟)

یہ فرمانے کے بعد آپ ﷺ نے اپنی سواری کسی جگہ باندھی اور آرام کی عَرَض سے لیٹ گئے، یہ صُبح کا وقت تھا، اس دوران آپ کی رُوح قبض کر لی گئی اور آپ ”100 سال کی نیند“ سو گئے، نیز آپ کا دَرَّازِ گوش بھی مر گیا۔ اس عرصے میں آپ ﷺ اللہ ﷻ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا، اللہ ﷻ نے آپ سے فرمایا: تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ ﷺ نے عرض کی: ”ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔“ کیونکہ آپ ﷺ اللہ ﷻ کا یہ خیال تھا کہ یہ اُسی دن کی شام ہے جس کی صُبح آپ آرام کرنے کے لئے لیٹے تھے۔ اللہ ﷻ نے فرمایا: تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو! ویسی ہی صحیح سلامت ہیں اور اپنا گدھا دیکھو کس حال میں ہے! جب آپ ﷺ نے کھجوریں اور انگور کا رَس دیکھا تو واقعی

جھوٹ بولتا رہتا اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار (یعنی بہت بڑا جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔ (مسلم، ص 1078، حدیث: 6639) اور آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشہ ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ (ترمذی، 3/ 392، حدیث: 1979) امی کی باتیں سن کر خالد نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

بچوں کے جھوٹ بولنے کی 9 مثالیں

پیارے مدنی مٹو اور مٹیو! گندے بچوں کی ایک بری عادت ”جھوٹ بولنا“ بھی ہے، یہ کبھی جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، پھر اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم نے جھوٹ نہیں بولا، اس طرح ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے بہت سارے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں اور کبھی جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ بولا جائے۔ گندے بچے کس کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، آئیے ہم آپ کو اس کی کچھ مثالیں بھی بتاتے ہیں تاکہ اگر اب تک آپ کے منہ سے بھی اس طرح جھوٹی باتیں نکلتی رہی ہیں تو آپ توبہ بھی کر لیں اور آئندہ بھی بچیں:

(1) اس نے مجھے مارا ہے (حالانکہ مارا نہیں ہوتا) (2) میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا (حالانکہ کہا ہوتا ہے) (3) اس نے مجھے دھکا دیا تھا (حالانکہ خود ٹھوکر کھا کر گرے ہوتے ہیں) (4) اس نے میرا کھلونا توڑ دیا (حالانکہ اس نے نہیں توڑا ہوتا) (5) شور کرنے کے باوجود کہنا: میں تو شور نہیں کر رہا تھا (6) بھوک ہونے کے باوجود من پسند چیز نہ ملنے کی وجہ سے کہنا: ”مجھے بھوک نہیں ہے“ (7) نہ کرنے کے باوجود کہنا: میں نے ہوم ورک کر لیا ہے یا سبق یاد کر لیا ہے۔ (8) یہ جھوٹ بول رہا ہے (جبکہ معلوم ہے کہ یہ سچا ہے) (9) اپنی سیاہی (Ink) سے کپڑے گندے ہو گئے مگر ڈانٹ پڑنے پر کہنا: ایک بچے نے میرے کپڑوں پر سیاہی گرا دی تھی۔ پیارے مدنی مٹو اور مٹیو! آئیے! ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ نعرہ لگاتے ہیں:

جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے
نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے

اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ



خالد کمرے میں کھیل رہا تھا جبکہ اُس کی امی چکن میں کام کر رہی تھیں۔ امی نے اچانک کوئی چیز گرنے کی آواز سنی، دوڑ کر کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ خالد میز (Table) پر کھڑا ہے اور اس کے پاس ہی زمین پر گلہ دان گر کر چکنا چور ہو چکا ہے۔ امی نے کہا: بیٹا! آپ نے گلہ دان توڑ دیا؟ خالد نے لڑکھائی زبان سے کہا: وہ۔ وہ۔ امی جان! عمران بھائی نے توڑا ہے۔ امی نے کہا: بیٹا! عمران تو کب سے مدرسے میں پڑھنے گیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ خالد کچھ اور بولتا امی جان نے اُسے نہایت پیار سے اپنے پاس بلایا اور یوں سمجھانے لگیں: خالد بیٹا! جھوٹ بولنا بُرا کام ہے، آپ کو ابھی سے جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے ورنہ بڑے ہونے کے بعد آپ کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پختہ ہو جائے گی، آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنے والے کو قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ خالد نے کہا: نہیں امی، آپ ہی بتائیے! امی نے کہا: ”جھوٹا“ دوزخ میں گئے کی شکل میں بدل جائے گا۔ (تنبیہ الغفرین، ص 194 المخطا) خالد نے کہا: امی جان! یہ کتے جیسی شکل ہونے والی بات سن کر تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی نے کہا: ہاں بیٹا! ڈرنا بھی چاہئے بلکہ خوفِ خدا پیدا کرنے والی باتیں پڑھتے اور سنتے رہنا چاہئے، اس سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ سامنے والا آپ کو سچا سمجھ رہا ہو اور آپ جھوٹ بول رہے ہوں، اس کا نقصان یہ ہو گا کہ آپ کی بات کا اعتبار اٹھ جائے گا اور کبھی ایسا بھی ہو گا کہ آپ سچ بول رہے ہوں گے اور لوگ آپ کی بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر

سبق یاد کرنے کے طریقے

لیجئے، اس طرح سبق کافی عرصے تک یاد رہتا ہے۔ سائنسی (Scientific) فارمولوں، تعریفوں (Definitions) اور اہم تاریخوں کو بار بار لکھ کر یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس طرح سوچنے (Thinking) کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، نیز غلطیوں کی نشاندہی، املا (Dictation) یا اسپیلنگ (Spelling) کی غلطیوں کی دُرستی، لکھنے کی مشق اور کام کی رفتار بڑھتی ہے، ہر مضمون کو مناسب وقت دینا، دارالمدینہ یا اسکول و کالج میں کیے گئے کام کا اسی روز گھر پر بھی جائزہ لینا، ہوم ورک باقاعدگی سے کرنا، ایک پیرا گراف اچھی طرح سمجھ کر اگلے پیرا گراف کی طرف بڑھنا کامیابی کے انداز ہیں۔ سبق یاد کرنے کے دوران اگر تھکاوٹ یا آکٹاہٹ محسوس ہو تو چند منٹ کے لیے وقفہ (Break) کر لیجئے، مناسب نیند سے ذہن کے خلیے (Cells) فریش ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی، مناسب خوراک، چہل قدمی (Walking)، بلکی پھلکی ورزش (Exercise) اور مدنی چینل پر کوئی سلسلہ دیکھ کر اپنے دماغ کو تروتازہ رکھنے کی ترکیب بنائیے۔

ان باتوں سے اجتناب کیجئے دوران تدریس استاد کی طرف توجہ نہ ہونا، باتوں میں مشغول رہنا، مشکل بات پوچھنے سے کترانا، اہم نکات نوٹ نہ کرنا اور ٹھیک طرح سے سبق یاد نہ کرنا طلبہ کو پریشانی سے دوچار کرتا ہے۔ ان باتوں سے اجتناب کیجئے۔

جواب دیجئے!

سوال 1: قرآن پاک میں کن کو شیطان کا بھائی کہا گیا؟

سوال 2: حضرت لعل شہزاد قائدِ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کب ہوا؟

ان سوالات کے جوابات کو پن کی پتیلی جانب لکھئے، نام و نمبر کے خانوں کو پُر کرنے کے بعد 10 مئی تک نیچے دیئے گئے پتے پر بھیج دیجئے۔ جواب درست ہونے کی صورت میں آپ کو 1100 روپے کا "مدنی چیک" پیش کیا جائے گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ (یہ مدنی چیک مکتبہ المدینہ کی کسی بھی شاخ پر دے کر کتابیں اور رسائل وغیرہ حاصل کئے جاسکتے ہیں)

پتہ: ماہنامہ فیضانِ مدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ، پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی

(ان سوالات کے جوابات ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے اسی شمارہ میں موجود ہیں)



اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! **دعوتِ اسلامی** کے اسکول سسٹم "دارالمدینہ" میں ہزاروں مدنی مٹے اور مدنی نٹیاں زیر تعلیم ہیں۔ عام طور پر ان مدنی مٹوں اور مدنی مٹیوں کو گھر پر کرنے کے لئے دیا جانے والا کام (Home work) دو طرح کا ہوتا ہے:

(1) لکھنے والا (2) یاد کرنے والا۔

لکھنے کا کام کرنا عموماً مشکل نہیں ہوتا البتہ یاد کرنے کے حوالے سے مدنی مٹے اور مدنی نٹیاں آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کی ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لئے ممکن ہے کسی کو سبق یاد کرنا مشکل لگتا ہو تو کسی کو آسان، چنانچہ سبق یاد کرنے کے کچھ مدنی پھول پیش کئے جاتے ہیں:

سبق یاد کرنے سے پہلے سبق یاد کرنے کے لئے روشن اور ہوادار جگہ کا انتخاب کیجئے، آپ کے پاس پڑھائی میں رکاوٹ ڈالنے والی کوئی چیز مثلاً: موبائل، ویڈیو گیم وغیرہ نہ ہو، سبق یاد کرنے کے لیے اپنے بہترین وقت (Time) کا انتخاب کیجئے، مختلف مضامین کا ٹائم ٹیبل (Time table) بنالیجئے، جس مضمون میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اُس کے لیے زیادہ وقت مقرر کیجئے۔

سبق یاد کرتے وقت ایک بار پورے سبق کا بغور مطالعہ کیجئے تاکہ سبق کا مضمون ذہن نشین ہو جائے، پھر دو سے تین بار ایک ایک پیرا گراف (Paragraph) کو بغور پڑھیے، اس کے بعد اپنا یاد کیا ہوا پیرا گراف زبانی تحریر کیجئے، پھر کتاب یا کاپی سے اپنی تحریر کو ملائیے، ہو سکتا ہے کہ چند ایک الفاظ یا جملے دُرست نہ ہوں، انہیں چند بار دُہرا لیجئے، اسی طرح باقی سبق بھی یاد کر

آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس حاسد کوٹے کو مجھ پر اعتراض (Objection) کرنا تو یاد رہا مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا۔ کوٹا ہند کی بات سُن کر لا جواب ہو گیا۔ (مشوی، ص 91 منہوا)


مدنی پھول: پیارے پیارے مدنی مُنو اور مدنی مُنیو! اس حکایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں کسی کی اچھائیوں اور خوبیوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے، بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کے لئے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اُسے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہئے۔ حسد ایک کبیرہ گناہ ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث میں ہے: **حسد نیکوں کو اس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔**

(ابن ماجہ، 4/473، حدیث: 4210) بچے بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، کسی کا بیگ اچھا ہے تو اُسے خراب کر دیتے ہیں، اگر کوئی بچہ اچھا پڑھتا ہے، ہمیشہ پوزیشن لیتا ہے اور اُستاد صاحب (Teacher) اُسے پسند کرتے ہیں تو اُس سے حسد کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِصْنِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

اوقاتِ سحر و افطار

جو عاشقانِ رسولِ رمضان المبارک میں اپنے مرحومین کے ایصالِ ثواب یا کسی ادارے اور کمپنی کی جانب سے رمضان المبارک کے سحر و افطار کیلنڈر شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ غور فرمائیں کہ ان کے منتخب کیلنڈر میں اوقاتِ درست بھی لکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟

کیونکہ شمعِ پہاڑی یا پہاڑی علاقوں کیلئے اوقات میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے شہروں کے پھیلاؤ اور اونچی عمارات کی بلندی کے سبب بھی اوقات میں فرق آتا ہے اور ان سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ورنہ غلطی کی صورت میں ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، لہذا اپنے اور دیگر مسلمانوں کے روزوں کی حفاظت کرنے اور گناہ سے بچنے کے لئے آئیے! دنیا کے کسی بھی شہر یا مقام کیلئے درست اوقاتِ سحر و افطار و دعوتِ اسلامی کی مجلسِ توفیق سے بذریعہ ای میل prayer@dawateislami.net حاصل فرمائیے۔



ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے، ہر پرندہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ جب **ہند** کی باری آئی تو وہ بولا: اے اللہ کے نبی! ایک معمولی سی خوبی مجھ میں بھی ہے اور وہ یہ کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی کو دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُسے اپنے فوجی دستے میں رکھ لیا تاکہ جنگ میں پانی کی تلاش میں آسانی ہو۔ جب کوٹے نے یہ دیکھا تو حسد کی وجہ سے بولا: یہ ہند جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو کبھی شکاری کے جال میں نہ پھنستا! حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہند سے پوچھا: اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ہند بولا: حضور! اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سرتن سے جدا کر دیجئے، میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں مگر تقدیر الہی میری عقل کی آنکھ کو بند کر دیتی ہے۔ جب موت

جواب یہاں لکھئے

جواب (1):

جواب (2):

نام:

کمل پتہ:

نوٹ: ایک سے زائد درست جوابات موصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی ہوگی۔ اصل کوچن پر لکھے ہوئے جوابات ہی قرعہ اندازی میں شامل ہوسکتے۔

فون نمبر:



کاتازہ گہستاں ہے آج بھی



اعلیٰ حضرت، حمید و دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنی تحریر و تقریر سے بڑے عظیم (پاک و ہند) کے مسلمانوں کے عقیدہ و عمل کی اصلاح فرمائی، آپ کے ملفوظات جس طرح ایک صدی پہلے راہنما تھے، آج بھی مشعل راہ ہیں۔ دور حاضر میں ان پر عمل کی ضرورت مزید بڑھ چکی ہے۔

06 مالِ حرام قابل قبول نہیں، نہ اُسے راہِ خدا میں صرف
(خرچ) کرنا روا (جائز)، نہ اُس پر ثواب ہے بلکہ نرا وبال ہے۔
(فتاویٰ رضویہ، 21/105)

07 شقی مسلمان کو دین پر اعتقاد ایسا چاہئے کہ لَا تُشْرِكُ
بِاللَّهِ وَإِنْ حُرِّقَتْ اُگُر کوئی جلا کر خاک کر دے تو دین سے نہ
پھرے۔ (فتاویٰ رضویہ، 21/154 طحا)

08 سائر عورت (ستر کو چھپانے والے کپڑوں) کا ایسا چُست ہونا
کہ غُضُو کا پورا انداز بتائے یہ بھی ایک طرح کی بے ستری
(بے پردگی) ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، 22/163 طحا)

09 کھانا کھاتے وقت نہ بولنے کا انتہاء (لازم) کر لینا بُجوس
(یعنی آتش پرستوں) کی عادت ہے اور مکروہ ہے۔ اور لغو باتیں
کرنا یہ ہر وقت مکروہ، اور فُکرِ خیر کرنا یہ جائز ہے۔
(ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص 448 طحا)

10 جاہل بوجہ تجہل اپنی عبادت میں سو (100) گناہ کر لیتا
ہے اور مصیبت یہ کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا اور عالمِ دین
اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد
نجات بخشتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، 23/687)

11 نعت شریف ذکرِ آئندہ ہے اور اس کا خوش الحانی
سے ہونا موریثِ زیادتِ شوق و محبت۔ (فتاویٰ رضویہ، 23/754)

12 آشُر اور (برے لوگوں) کے پاس بیٹھنے سے آدمی نقصان
اٹھاتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، 24/314)

01 آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اُس کے جنت ہیں
اور ناراض کرے تو وہی اُس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو
راضی نہ کرے گا اُس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی عمل نیک
أَصْلًا قبول نہ ہوگا، عذابِ آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی
سُخت بلا نازل ہوگی، مرتے وقت مَعَآذِ اللہ کلّ نصیب نہ ہونے
کا خوف ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، 24/384)

02 جسم کے حق میں کبھی کبھی ہلکا بخار، زکام، دردِ سر اور
ان کے مثل ہلکے امراض بلا نہیں نعمت ہیں بلکہ ان کا نہ ہونا بلا
ہے مردانِ خدا پر اگر چالیس دن گزریں کہ کوئی عِلّت و قِلّت
نہ پہنچے (یعنی بیماری و پریشانی نہ آئے) تو استغفار و انابت فرماتے ہیں
(یعنی توبہ کرتے اور رجوع لاتے ہیں) کہ مبادا باگ ڈھیلی نہ کر دی گئی
ہو (یعنی جس طرح نافرمانوں کو گناہوں کی وجہ سے ڈھیل دیدی جاتی ہے،
کہیں ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو)۔ (فضائل دعا، ص 173)

03 ”شریعت“ تمام احکامِ جسم و جان و روح و قلب و جملہ علوم
الہیہ و معارفِ نامتناہیہ کو جامع ہے جن میں سے ایک ایک
کلمّے کا نام طریقت و معرفت ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، 21/523)

04 طریقت میں جو کچھ مُنکشف ہو تا ہے شریعت ہی کے
إِتِّبَاع کا صدق ہے ورنہ بے إِتِّبَاعِ شَرَع بڑے بڑے کُشف
راہبوں، جوگیوں، سنیا سیوں کو ہوتے ہیں، پھر وہ کہاں تک لے
جاتے ہیں اُسی تَارِ جَحِیم و عَذَابِ اَلِیم تک پہنچاتے ہیں۔
(فتاویٰ رضویہ، 21/524)

05 عبادت محض لِوَجْہِ اللہ (یعنی صرف اللہ کی رضا کے لئے)
ہونا چاہیے، کبھی اپنے اَعْمَال پر نازاں نہ ہو کہ کسی کے عمر بھر
کے اَعْمَالِ حَسَنہ اُس (اللہ عزّ و جلّ) کی کسی ایک (بھی) نِعْمت کا جو اُس
نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے، بدلہ نہیں ہو سکتے۔
(ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص 281)

حکام الفتاۃ اہل سنت

نماز میں کھانسا/ بیوہ کی عدت کتنی ہے؟/ غیر شرعی وصیت پر عمل کرنا کیسا؟

دارالافتاء اہل سنت (دعوت اسلامی) مسلمانوں کی شرعی راہنمائی میں مصروف عمل ہے، تحریر، آ، زبانی، فون اور دیگر ذرائع سے ملک و بیرون ملک سے ہزار ہا مسلمان شرعی مسائل دریافت کرتے ہیں، جن میں سے چار منتخب فتاویٰ ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں۔

نماز میں کھانسا

کہ چالیسویں تک ہی عدت ہوگی کیونکہ شوہر نے اس کی وصیت کر دی تھی مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا شوہر کی اس وصیت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ نوٹ: عورت حمل سے نہیں ہے۔ سائل: محمد ہاشم (پاپوش نگر، باب المدینہ کراچی)

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس بارے میں کہ نماز میں بہت دیر تک کھانسنے کی نوبت آجائے جس کی وجہ سے تین سُبْحَنَ اللہ کی مقدار تاخیر بھی ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں کیا سجدہ سہو وغیرہ کرنا ہوگا؟ سائل: محمد شفیع عطاری (S-E، نیو کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدْ اَبْنَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ عذر کی بنا پر مثلاً کھانسنے کے سبب بالفرض اگر تین مرتبہ سُبْحَنَ اللہ کہنے کی مقدار قراءت یا تَشَهُّد وغیرہ میں سُکُوت ہو جائے یا فرض و واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو اس سے نماز پر کچھ اثر نہیں پڑتا اور اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

الجواب صحیح

کتبہ المتخصص فی الفقہ الاسلامی ابو عبد اللہ محمد سعید عطاری مدنی

عناصہ الباری ابو الحسن فضیل رضا عطاری

بیوہ کی عدت اور غیر شرعی وصیت پر عمل کرنا کیسا؟

کنز الایمان: اور تم میں جو مرئیں اور بیبیان چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ (پ2، البقرہ: 234) اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر اسلامی مہینہ کی پہلی یا آخری تاریخ کو انتقال ہو تو چار ماہ دس دن یوں پورے کرنے ہیں کہ مکمل چار ماہ گزاریں (یہ مہینے

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری بڑی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں میری بہن کو یہ وصیت کی تھی کہ فقط چالیسویں تک عدت کرنا، اب میری بہن اور گھر کے دیگر افراد کا کہنا ہے

چاہے انتیں کے ہوں چاہے تیں کے) اور پھر مزید دس دن۔
اور اگر دورانِ ماہ انتقال ہو تو 130 دن پورے کرنے ہیں یعنی
انتقال کے وقت سے لے کر مکمل 130 دن گزارنے ہیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

الجواب صحیح

عبدہ المذنب
ابو الحسن فضیل رضا عطاری
المتخصص فی الفقہ الاسلامی
ابو مصطفیٰ محمد ماجد رضا عطاری مدنی

عبدہ المذنب
ابو الحسن فضیل رضا عطاری
المتخصص فی الفقہ الاسلامی
ابو مصطفیٰ محمد ماجد رضا عطاری مدنی

مہر کی ادائیگی میں روپے کی قدر کا اعتبار

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
میری شادی کم و بیش 36 سال قبل ہوئی تھی اور 11000 حق مہر
طے ہوا تھا ابھی تک میں نے مہر ادا نہیں کیا تھا اب جب میں نے
مہر ادا کرنا چاہا تو میری زوجہ کا کہنا ہے کہ 11000 تو اس وقت
طے ہوا تھا مگر اب تو روپے کی ویلیو (Value) بڑھ گئی ہے لہذا اب
میں بطور مہر آپ سے 1,50,000 ایک لاکھ پچاس ہزار روپوں
کی۔ اب مجھے معلوم کرنا ہے کہ کیا مہر میں اس طرح روپے کی
ویلیو (Value) کا اعتبار ہو گا یا نہیں اور مجھے کتنا مہر ادا کرنا ہو گا؟

سائل: سید عبد الختار (پی، آئی بی کالونی، باب المدینہ کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدْ اَبَاہِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

جتنا مہر مقرر ہوا تھا اتنا ہی دینا ہو گا کرنسی کی ویلیو (Value)
زیادہ ہونے کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے چنانچہ صدر الشریعہ
بدْرُ الطَّرِیْقَہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَیْہِ
رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْقَوِیٰ فرماتے ہیں: مہر کم از کم دس درہم (2 تولہ ساڑھے
7 ماشہ چاندی) ہے خواہ سکہ ہو یا ویسے ہی چاندی یا اس قیمت کا کوئی
سامان، اگر درہم کے سوا کوئی اور چیز مہر ٹھہری تو اس کی قیمت
عَقْد (کاخ) کے وقت دس درہم سے کم نہ ہو اور اگر اس وقت
تو اسی قیمت کی تھی مگر بعد میں قیمت کم ہو گئی تو عورت وہی

پائے گی پھیرنے کا اسے حق نہیں۔

(بہار شریعت، 2/64، مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

الجواب صحیح

عبدہ المذنب
ابو الحسن فضیل رضا عطاری
المتخصص فی الفقہ الاسلامی
ابو مصطفیٰ محمد ماجد رضا عطاری مدنی

عبدہ المذنب
ابو الحسن فضیل رضا عطاری
المتخصص فی الفقہ الاسلامی
ابو مصطفیٰ محمد ماجد رضا عطاری مدنی

ایک ساتھ دو الگ الگ برسیوں کا حکم

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے
بارے میں کہ میرے والد کی پہلی برسی اور میری ساس کی
دوسری برسی ایک ہی مہینے میں آ رہی ہیں۔ تو کیا میں ایک ہی
وقت، ایک ہی جگہ پر دونوں کی فاتحہ خوانی اور برسی کا انعقاد کر
سکتا ہوں؟ سائل: محمد رفیق راجہ (ننٹر روڈ، باب المدینہ کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدْ اَبَاہِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

جی ہاں! آپ اپنے والد اور ساس کی برسی ایک ساتھ کر سکتے
ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ایصالِ ثواب کی
صورت ہے اس میں کسی وقت یا عمل کی تعیین نہیں ہوتی بغیر
کسی قید کے جب بھی چاہیں کوئی نیک عمل کر کے میت کو ایصالِ
ثواب کر سکتے ہیں مگر جب برسی کا دن جس کا نہ ہو گا تو اسے اس
کی برسی حقیقتاً نہ کہا جائے گا عرف میں معمولی فرق سے اس قسم کا
اطلاق کر دیا جاتا ہے، اس میں حرج نہیں اور اگر ایک ساتھ چند
ناموں سے ایصالِ ثواب کیا جائے تو ہر ایک کو پورا پورا ثواب
بھی ملتا ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

الجواب صحیح

عبدہ المذنب
ابو الحسن فضیل رضا عطاری
المتخصص فی الفقہ الاسلامی
ابو عبد اللہ محمد سعید عطاری مدنی

عبدہ المذنب
ابو الحسن فضیل رضا عطاری
المتخصص فی الفقہ الاسلامی
ابو عبد اللہ محمد سعید عطاری مدنی

بروز ہفتہ رات 9 بجکر 30 منٹ

”مدنی مذاکرہ“
شیخ محمد یونس امیر اہلسنت و اہلجنت
کے علم و حکمت کے مدنی پھول پر مشتمل



حضرت سیدنا عثمان بن مظعون

ابو عبید عطاری مدنی

اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور فرمایا: میں تیری امان تجھے لوٹاتا ہوں، اس نے پوچھا: کیا میری قوم کے کسی فرد نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں اللہ عزوجل کی پناہ پر راضی ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کسی کی پناہ پسند نہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا: جس طرح میں نے تمہیں اعلانیہ امان دی تھی اسی طرح تم اعلان کر کے میری امان لوٹاؤ، چنانچہ ایک مجمع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ولید بن مغیرہ اپنی امان کو پورا کرنے والا ہے لیکن مجھے پسند نہیں کہ میں اللہ عزوجل کے سوا کسی کی امان میں رہوں لہذا میں اس کی امان اسے واپس کرتا ہوں، اس کے بعد کفار کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کا ایک نیاباب کھل گیا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ کو سخت نقصان پہنچا، یہ دیکھ کر ولید بن مغیرہ نے کہا: اگر تم میری امان میں رہتے تو یہ تکلیف نہ پہنچتی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایہ استیغلا میں ذرا غزش نہ آئی اور فرمایا: میری دوسری آنکھ آرزو کر رہی ہے کہ اسے بھی راہ خدا میں یہ تکلیف پہنچے اور ربی بات امان کی تو میں اس کی امان میں ہوں جو تجھ سے زیادہ عزت و قدرت والا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء 1/147-149، اخوذ) مختصر

تعارف اور فضائل و معجزات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو السائب ہے، 13 عرووں کے بعد اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی، (سیر اعلام النبلاء، 3/99) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں، (مرآۃ المناجیح، 2/447) اُم المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں جان (طبقات ابن سعد، 65/8) جبکہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند تھے، یاد رہے کہ یہ وہی حضرت خولہ بنت حکیم ہیں جنہوں نے

ہجرت حبشہ کے سالار قافلہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا جینا دو بھر کر دیا تو بارگاہ رسالت سے صحابہ کرام علیہم السلام کو ایک پُر امن ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت عطا ہوئی لہذا ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت کے پانچویں سال گیارہ مرد اور چار خواتین نے ہجرت کی سعادت پائی اس قافلہ کے سالار جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ (طبقات ابن سعد 1/159، حلیۃ الاولیاء، 1/149، اخوذ) کفار مکہ نے شرکائے قافلہ کو گرفتار کرنا چاہا لیکن نور ایمان سے منور یہ مقدس حضرات کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے۔ یہ مہاجرین حبشہ پہنچ کر امن و امان کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ **مکہ واپسی** چند دنوں کے بعد اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے جسے سن کر چند نفوس قدسیہ مکہ لوٹ آئے مگر یہاں آکر پتا چلا کہ خبر غلط تھی، بعض پھر حبشہ چلے گئے اور کچھ مکہ ہی میں روپوش ہو گئے مگر کفار مکہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور تکالیف دینی شروع کر دیں۔ (سیرت مصطفیٰ، 127) حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ سے واپس آکر ولید بن مغیرہ کی امان حاصل کر لی جس کی وجہ سے کفار مکہ کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے۔ **مشرک کی امان میں رہنا گوارا نہ کیا** آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میں لو مان پا کر راحت و آرام سے اپنے صبح و شام گزار رہا ہوں لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم السلام سخت تنگی اور مصیبت سے دوچار ہیں تو فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ایک مشرک کی امان میں رہ کر راحت و آرام پاؤں اور میرے رفقا مصیبت و مشقت اٹھائیں، چنانچہ آپ رضی

فرمایا: اے ابوسائب! تم اس دنیا سے یوں چلے گئے کہ تم نے اس کی کسی چیز سے کچھ نہ لیا۔ (حلیۃ الاولیاء، 1/150، رقم: 333، ماخوذاً) نبی رحمت ﷺ نے آپ کی نمازِ جنازہ ادا فرمائی۔ (ابن ماجہ، 2/220، حدیث: 1502) آپ ﷺ پہلے صحابی ہیں جن کی جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، 3/357، رقم: 291) تدفین کے بعد پیدائے آقا ﷺ نے ایک شخص کو ایک بڑا پتھر لانے کا حکم دیا لیکن وہ اکیلا اُس پتھر کو اُٹھانہ سکھا یہ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ اُٹھ کر تشریف لے گئے اور اپنی آستینیں چنہا کر اس پتھر کو اُٹھایا پھر اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے آپ ﷺ کی قبر پر اسے نصب فرمادیا تاکہ اس پتھر کے سبب قبر کی پہچان رہے اور خاندانِ نبوت سے وصال فرمانے والے افراد کو اس قبر کے قریب دفن کیا جائے۔ (ابوداؤد، 3/285، حدیث: 3206، طحاوی، 3/335، رقم: 192، تحت حدیث: 1711) حلیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ثابت ہوا کہ اگر کسی خاص قبر کا نشان قائم رکھنے کے لئے قبر کچھ اونچی کر دی جائے یا پتھر وغیرہ سے پختہ کر دی جائے تو جائز ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے۔ (جاء الحق، ص 230) بعد میں رحمتِ عالم نور مجسم ﷺ نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے صاحبِ زادی حضرت بی بی زینب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کو آپ ہی کے پہلو میں دفن فرمایا۔ (مسند امام احمد، 1/511، حدیث: 2127) مہاجر صحابہ علیہم السلام میں سے کسی کا انتقال ہوتا اور بارگاہِ رسالت میں عرض کی جاتی کہ ہم انہیں کہاں دفن کریں؟ تو حکمِ ارشاد ہوتا تھا: ہمارے پیشِ رو (یعنی آگے گزرنے والے) عثمان بن مظعون کے قریب۔ (مسند رک، 4/191، حدیث: 4919) حضرت اُمّ علاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے گھر میں وفات پائی تھی، رات کو میں نے خواب میں حضرت عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے ایک چشمہ دیکھا جس کا پانی رواں دواں تھا جب میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ کو بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ ان کا عمل ہے۔ (بخاری، 2/208، حدیث: 2687)

رحمتِ عالم ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے رشتے کی بات چلائی تھی۔ (مسند امام احمد، 10/29، حدیث: 25827) آپ اصحابِ صفہ میں سے تھے (مرقاۃ المفاتیح، 4/192، تحت حدیث: 1711) سرورِ کونین ﷺ نے آپ کا نام اَلْکَلْبُفُ الصَّالِح (نیک بزرگ) رکھا۔ (معرفۃ الصحابہ، 3/364) آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احکاماتِ الہیہ کی بجا آوری میں پیش پیش رہا کرتے، عزت و عظمت والے اوصاف سے اپنے کردار کو زینت بخشتے اور عبادت و ریاضت کے نور سے اپنی ساعتوں کو مُنَوَّر کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تو رات بھر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ (حلیۃ الاولیاء، 1/151، رقم: 338) مسجدِ نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عُمَدگی اور تیزی کے ساتھ انیٹس اُٹھا اُٹھا کر لاتے، پھر فارغ ہو کر اپنا جائزہ لیتے اور کپڑوں پر لگی مٹی کو جھاڑ دیا کرتے۔ (سبل الہدی، والرشاد، 3/336) سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جابجا چمڑے کے پیوند لگی ہوئی پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے جسے دیکھ کر نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام علیہم السلام انکھوں میں آنسو بھر آئے۔ (حلیۃ الاولیاء، 1/150، رقم: 335، طحاوی) کبھی شراب نہ پی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبولِ اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شرابِ حرام کر رکھی تھی اور اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ کبھی کوئی ایسی چیز نہ پیوں گا جس سے عقلِ زائل ہو اور کم تر لوگ مذاقِ اڑائیں۔ (الاستیعاب، 3/166) آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہونے والے غزوہ بدر میں مجاہدانہ شان سے شریک ہوئے اور غازی بن کر لوٹے۔ (وصالِ مبارک) ایک قول کے مطابق شعبان المعظم سن 3 ہجری میں آپ اپنے محبوبِ حقیقی ﷺ سے جا ملے اور ہر قسم کے غم سے نجات یافتہ ہو گئے۔ (الجامع الاصول، 13/314) وصال کے بعد نبی کریم ﷺ نے آپ کے رُخسار کا بوسہ لیا اور رونے لگے یہاں تک کہ جانِ عالم ﷺ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی چشمانِ کرم سے مبارک آنسو بہہ کر آپ کے رُخسار پر گرنے لگے۔ (ابن ماجہ، 2/198، حدیث: 1456) یہ دیکھ کر صحابہ کرام علیہم السلام بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور بے اختیار رونے لگے پھر غمگین دلوں کے چینِ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

جُوئے کی 6 صورتیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آج کل دنیا میں جوئے کے نت نئے طریقے رائج ہیں، ان میں سے 6 یہ ہیں: (1) **لاٹری** اس طریقہ کار میں لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں نکلٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کئے جاتے ہیں پھر قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیئے جاتے ہیں جبکہ بقیہ افراد

مُعاشرے کے ناسو

جوا

(دوسری اور آخری قسط)

کی رقم ڈوب جاتی ہے، یہ بھی جوئے ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ (2) **پرائز بانڈ کی پرچی** حکومت پاکستان ”200، 750، 1500، 7500 اور 15000“ روپے کی قیمت کے انعامی بانڈز بینک کے ذریعے جاری کرتی ہے اور جدول کے مطابق ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے کروڑوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کرتی ہے، جس کا انعام نہیں نکلتا اُس کی بھی رقم محفوظ رہتی ہے وہ اسے جب چاہے بھننا (یعنی کیش کرنا) سکتا ہے۔ یہ جواز (یعنی جائز ہونے) کی صورت ہے اور جوئے میں داخل نہیں۔ لیکن اس کے متوازی بعض لوگ انعامی بانڈز کی پرچیاں بیچتے ہیں، ان پرچیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی اور ناجائز و حرام ہے کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈز اپنے ہی پاس رکھتا ہے (بلکہ بعض اوقات پرائز

بانڈ بھی بیچنے والے کے پاس نہیں ہوتے) پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل رقم کے بدلے پرچی پر محض ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے کہ اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا۔ انعامی پرچی کا یہ کام بھی جو ہے کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ (3) **موبائل میسجز (Mobile Messages) اور جوا** موبائل پر مختلف سوالات پر مبنی میسجز بھیجے جاتے ہیں مثلاً کونسی ٹیم میچ جیتے گی؟ یا پاکستان کس دن بنا تھا؟ جس میں دُست جوابات دینے والوں کیلئے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں، شرکت کرنے والے کے ”موبائل بیلنس“ سے قلیل رقم مثلاً دس روپے کٹ جاتی ہے، جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے، یہ بھی جو ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ (4) **مُعَنّہ** اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوالات حل کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اُسے انعام دیا جاتا ہے، انعامات کی تعداد تین یا چار یا اس سے زائد بھی ہوتی ہے۔ لہذا دُست حل زیادہ تعداد میں نکلیں تو قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں، ان کی شرکت و طرح سے ہوتی ہے: (1) مفت (2) معمولی فیس دے کر، اگر شرکاء سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے تو اور کوئی مانع شرعی نہ ہونے کی صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے۔ جس میں شرکاء سے فیس لی جاتی ہے اُس میں انعام ملے یا نہ ملے رقم ڈوب جاتی ہے، یہ صورت جوئے کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ (5) **پیسے جمع کر کے قرعہ اندازی کرنا** بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرعہ اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی، یہ بھی جو ہے کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے کہ جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آیا اسے یہ کتاب دے دی جائے گی، یہ بھی جو ہے۔ یاد رہے کہ بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو

قرعہ اندازی کر کے انعامات دیتی ہیں، یہ جائز ہے کیوں کہ اس میں کسی کی بھی رقم نہیں ڈوبتی۔ (6) مختلف کھیلوں میں شرط لگانا ہمارے یہاں مختلف کھیل مثلاً گھڑ دوڑ، کرکٹ، کیرم، بلیرڈ، تاش، شطرنج وغیرہ دو طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا، یہ بھی جواز ہے اور ناجائز و حرام۔ کیرم اور بلیرڈ کلب وغیرہ میں کھیلنے وقت غموما یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا ادا کریگا، یہ بھی جواز ہے۔ بعض ”نادان“ گھروں میں مختلف کھیلوں مثلاً تاش یا لودو پر دو طرفہ شرط لگا کر کھیلے ہیں اور کم علمی کے باعث اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ بھی سنبھل جائیں کہ یہ بھی جواز ہے اور جو احرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

(غیبت کی تباہ کاریاں، ص 188، 190)

جواہریوں کی صحبت کا بھیانک انجام پنجاب (پاکستان) کے ایک محلے میں عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی، علاقے والوں کی خوب جستجو کے بعد نہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا، وہ بدبو ایک بند گھر سے آرہی تھی۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے روگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چارپائی پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے بعض حصے گل مڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لئے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواہریوں سے اس کی دوستی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا، ہارے ہوئے جواہری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لئے اس کے گلے میں پھندا گسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اسے بے گور و کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے۔

(نیکی کی دعوت، حصہ اول، ص 290)

جوئے سے توبہ کا طریقہ جو ا کھیلنے والا اگر نادام ہوا تو اس کو چاہئے کہ بارگاہِ الہی عَزَّوَجَلَّ میں سچی توبہ کرے مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بدستور حرام ہی رہے گا اس ضمن میں راہنمائی

کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت، امامِ اہل سنت، امام احمد رضا خان عَلَیْہِ دَعْوَةُ الْوَحْلَن فرماتے ہیں: جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے اور اس سے براءت (یعنی نجات) کی یہی صورت ہے کہ جس جس سے جتنا جتنا مال جیتا ہے اُسے واپس دے یا جیسے بنے اُسے راضی کر کے معاف کرا لے۔ وہ نہ ہو تو اُس کے وارثوں کو واپس دے، یا اُن میں جو عاقل بالغ ہوں ان کا حصہ اُن کی رضامندی سے معاف کرا لے۔ باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں اور جن لوگوں کا پتا کسی طرح نہ چلے، نہ اُن کا، نہ اُن کے ورثہ کا، اُن سے جس قدر جیتا تھا اُن کی نیت سے خیرات کر دے، اگرچہ (خود) اپنے (بی) محتاج بہن بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجوں کو دے دے۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں: غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے کہ اتنا مال فلاں سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا، اتنا تو انہیں یا اُن کے وارثوں کو دے، یہ نہ ہوں تو اُن کی نیت سے تصدق (یعنی صدقہ) کرے، اور زیادہ پڑنے کے یہ معنی کہ مثلاً ایک شخص سے دس بار جو ا کھیلنا کبھی یہ جیتا کبھی یہ، اُس (یعنی سامنے والے جواہری) کے جیتنے کی (رقم کی) مقدار مثلاً سو روپے کو پہنچی اور یہ (خود) سب دفعہ کے ملا کر سو سو جیتا، تو سو سو برابر ہو گئے، پچیس اُس (یعنی سامنے والے جواہری) کے دینے رہے۔ اتنے ہی اسے واپس دے۔ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاس (یعنی اور اسی پر قیاس کر لیجئے) اور جہاں یاد نہ آئے کہ (جو ا کھیلنے والے) کون کون لوگ تھے اور کتنا (مال جوئے میں جیت لیا، وہاں زیادہ سے زیادہ (مقدار کا) تخمینہ (تخمینی۔ نہ۔ یعنی اندازہ) لگائے کہ اس تمام مدت میں کس قدر مال جوئے سے کمایا ہو گا اتنا مالکوں (یعنی اُن نامعلوم جواہریوں) کی نیت سے خیرات کر دے، عاقبت یونہی پاک ہوگی۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔ (فتاویٰ رضویہ، 19/651)

اے جواہری تُو جوئے سے باز آ
ورنہ پھنس جائے گا جس دن تُو مرا
ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر
قبر سن لے آگ سے جانیگی بھر

(وسائلِ بخششِ مرم، ص 713)


بن حارث بن جَزْءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ہیں۔ میں نے عرض کی: ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا: ان کے پاس نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنی ہوئی احادیثِ مبارکہ ہیں۔ یہ سُن کر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہِ راست ایک حدیثِ پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ (اخبارِ با حنیفہ و اصحاب، ص 18) **قابلِ رشک اوصاف** اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے آپ کو ظاہری و باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیتی۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم ہوتے اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رَس گھول دیتی، آپ کو کبھی غیبت کرتے نہیں سنا گیا۔ **حکایت ایک**

مرتبہ حضرت عبد اللہ ابن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا سُفْیَان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے آپ کے اس وصف کا تذکرہ یوں کیا: امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ غیبت سے اتنے دُور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ (اخبارِ با حنیفہ و اصحاب، ص 42) آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ رضائے الہی کو ہر شئی پر ترجیح دیتے۔ (تہذیب الاسماء، 2/503-506، اخبارِ با حنیفہ و اصحاب، ص 42) آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ علما و مشائخ کی اعانت پر زہرِ کثیر خرچ فرماتے۔ (اخبارِ با حنیفہ و اصحاب، ص 42)

آپ کے جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: امام اعظم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ (البحرِ الحسان، ص 57) آپ کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا تو اس سے فرماتے: اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ رِزق اللہ

کوفہ (عراق) وہ مبارک شہر ہے جسے ستر اصحاب بدر اور بیعتِ رضوان میں شریک تین سو صحابہ کرام نے شرفِ قیام بخشا۔ (طبقاتِ کبریٰ، 6/89) آسمان ہدایت کے ان چمکتے دھندلے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا۔ اسی اہمیت کے پیشِ نظر اسے کنز الایمان (ایمان کا خزانہ) اور قبۃ الاسلام (اسلام کی نشانی) جیسے عظیم الشان القابات سے نوازا گیا۔ جب 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی ایسی ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمانِ علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ (طبقاتِ کبریٰ، 6/86، اخبارِ با حنیفہ، ص 17) امام اعظم کا نام نُعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتداء میں قرآن پاک حفظ کیا پھر 4000 علما و محدثین کرام رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ سے علمِ دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر رفیقہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ کے چرچے ہو گئے۔


(تہذیب الاسماء، 2/501، المناقب لکھنوی، 1/37-53، عقود الجمان، ص 187) آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبد اللہ بن اوفی، حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کا نام سرفہرست ہے۔ یوں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ (شرح مسند ابی حنیفہ لاملی قاری، ص 581 خلاصہ) **حکایت** امام اعظم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی (حضرت ثابت رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ) کے ساتھ حج کیا، اس دوران میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے، میں نے والد محترم سے عرض کی: یہ ہستی کون ہے؟ انھوں نے بتایا: یہ صحابی رسول حضرت عبد اللہ



ہے۔ (تفسیر روح البیان، 3/154) رات میں ادا کی جانے والی اِن نمازوں میں خوب اشک باری فرماتے، اس گریہ و زاری کا اثر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے چہرہ مبارک پر واضح نظر آتا۔ (اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، ص 47، الخیرات الحسان، ص 54) **ذریعہ معاش** آپ نے حُصُولِ رِزْقِ حَلَال کے لئے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور لوگوں سے بھلائی اور شرعی اُصُولوں کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے قیمت تک کے تاجروں کے لئے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ (تاریخ بغداد، 13/356) علم فقہ کی تدوین، ابواب فقہ کی ترتیب اور دنیا بھر میں فقہ حنفی کی پذیرائی آپ کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہے۔ (الخیرات الحسان، ص 43)

وصال و مدفن 150 ہجری کو عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً پچاس ہزار افراد نے شرکت کی۔ لاکھوں شافعیوں کے امام حضرت سیدنا امام شافعی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بغداد میں قیام کے دوران ایک معمول کا ذکر یوں فرمایا: میں امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے برکت حاصل کرتا ہوں، جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دو رکعت پڑھ کر ان کی قبر **مبارک** کے پاس آتا ہوں اور اُس کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا کرتا ہوں تو میری حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائِضُ الْأَنْوَارِ عَرَجِ خَلَّاق ہے۔ (مناقب الامام الاعظم، 2/216، سیر اعلام النبلاء، 6/537، اخبار ابی حنیفہ واصحابہ، ص 94، الخیرات الحسان، ص 94)

امام اعظم کی مبارک سیرت کے متعلق مزید جاننے کے لئے **امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْاَعَالِیَہُ** کے رسالے **”اشکوں کی برسات“** (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ کیجئے۔



عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے لئے بھیجا ہے۔ (الخیرات الحسان، ص 57) امام اعظم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ زہد و تقویٰ کے جامع، والدہ کے فرمانبردار، امانت و دیانت میں یکساں، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے، بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو نمایاں کر دیا تھا۔ (اخبار الامام الاعظم ابی حنیفہ، ص 41، 49، 63، 64، تبیین الصیغہ، ص 131) آپ کے حُسنِ اخلاق سے متعلق حضرت کبیر بن معرُوف رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے اُمتِ مصطفیٰ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ حُسنِ اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان، ص 56)

حکایت حضرت سیدنا شفیق لعلی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں بدل دیا؟ اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی: میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو دس ہزار درہم دینے ہیں جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں تنگدست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ امام اعظم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ! میں نے سارا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ (الخیرات الحسان، ص 57)

عبادت و ریاضت امام اعظم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عبادت و ریاضت میں بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل تیس سال روزے رکھے، تیس سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، چالیس سال تک عشا کے وُضُو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر دن اور رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، رمضان المبارک میں 62 قرآن ختم فرماتے اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اُس مقام پر آپ نے سات ہزار بار قرآن پاک ختم کئے۔ (الخیرات الحسان، ص 50) آپ نے 1500 درہم خرچ کر کے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا جسے آپ روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے اور اس کی حکمت یہ ارشاد فرماتے: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے زینت اختیار کرنا، لوگوں کے لئے زینت اختیار کرنے سے بہتر

مکتوباتِ امیرِ اہل سنت

شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوتِ اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے انتخاب

(یہ مکتوبات شیخ طریقت، امیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نظر ثانی اور قدرے تغیر کے ساتھ پیش کئے جا رہے ہیں۔)

شک کی بنا پر دوسرے کی کتاب لوٹانے کا انداز

عاشق کی عید کی منظر کشی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سب مدینہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی رضی اللہ عنہ کی
جانب سے بلبل دعوتِ اسلامی، مبلغِ سنت۔۔۔ کی خدمت میں:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ!

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ!

میٹھے مدینے کی مہکی مہکی یادیں اپنے جلو میں لئے ہوئے
جناب کا عید مبارک نامہ بڑی شان سے وارو ہوا۔ بہت بہت
شکریہ۔ اللہ عزوجل آپ کو مدینے کی دید والی عید نصیب فرمائے!۔

اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے

قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے

پیارے (اسلامی) بھائی! اصل عید اُسی وقت ہے، جب
سنہری جالیوں کے روبرو حاضری ہوگی، سنہری جالیوں کی
زکاوت بھی دور ہو چکی ہوگی، اے کاش!۔

سنہری جالیاں ہوں، آپ ہوں اور مجھ ساعسی ہو

وہیں یہ جاں جدا ہو، جانِ جاناں، یا رسول اللہ

اُن کے جلووں میں رُوح اُن کے قدموں پر قربان ہو
جائے، بس ایک عاشق کی حقیقی عید تو یہی ہے۔ کاش! ایسی
عید مبارک ہو۔

آپ کی دعاؤں کا ہر وقت محتاج۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سب مدینہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی رضی اللہ عنہ
کی جانب سے میرے محسن، پیارے پیارے بھائی۔۔۔ کی
خدمت میں:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ!

اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال
فرمائے، بے حساب بخشے اور مجھ گنہگار کے حق میں بھی یہ دعائیں
قبول فرمائے۔ اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
میری کتابوں میں سے (ایک کتاب بنام) ”تاریخِ مدینہ منورہ“
دستیاب ہوئی جس پر آپ جناب (کے نام) کی مہر لگی ہوئی ہے،
اب یہ یاد نہیں کہ آپ نے (مجھے) تحفہ نوازا تھا یا عاریتاً (یعنی بطور
قرض) دی تھی، لہذا آپ کی خدمت میں پیش ہے، میرے اس
میں تصرف کرنے کی علامات بھی موجود ہیں، براہ کرم! یہ بھی
اور اس کے علاوہ جو بھی چھوٹے بڑے حقوق آپ کے مجھ سے
تلف ہوئے ہوں سب مُعَاف فرما دیجئے اور گواہ رہئے میں
اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مسلمان ہوں، غلام
مصطفیٰ و صحابہ و اولیا ہوں، میری بے حساب مغفرت کی دعا
فرماتے رہئے۔

وَالسَّلَامُ مَعَ الْاٰخِرِ اَمَام



16 ربیع الآخر 1434ھ

فرمان مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سفارشی بنانے کا عمل مدینے کے سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ شفاعت نشان ہے: جو شخص قبرستان میں جا کر سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ تکوین پڑھے، پھر یہ کہے: اے اللہ! میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومنین مردوں اور عورتوں کو پہنچا تو وہ سب (قیامت کے دن) اس (ایصالِ ثواب کرنے والے) کی شفاعت کریں گے۔ (شرح الشُّدُور، ص 311) **قُبُورِ والدین کی زیارت کی فضیلت** سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مشکبار ہے: جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے، اُس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اُسے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ (شعب الایمان، 6/201، حدیث: 7901) یہاں جمعہ سے مراد یا تو جمعہ کا دن ہے یا پورا ہفتہ، بہتر ہے کہ ہر جمعہ کے دن والدین کی قُبُور کی زیارت کیا کرے، اگر وہاں حاضری میسر نہ ہو تو ہر جمعہ کو ان کے لئے ایصالِ ثواب کیا کرے۔ (مرآۃ المناجیح، 2/526)

قبرستان کی حاضری کے آداب

مزار شریف یا قبر کی زیارت کیلئے جاتے ہوئے راستے میں فُضُول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ **✽** قبرستان جا کر اس طرح سلام کریں: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ الْقُبُورِ یَغْفِرُ اللہُ لَنَا وَ لَکُمْ اَنْتُمْ سَلَفًا وَ نَحْنُ بِالْآخِرِ اے قبر والو! تم پر سلام ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آگئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ (ترمذی، 2/329، حدیث: 1055) **✽** قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبز پر ہاتھ لگائیں بلکہ قبز سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں **✽** قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والے کو ایذا ہوتی ہے لہذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے، روندنے، قبر پر بیٹھنے اور ٹیک لگانے سے بچیں۔ یاد رکھئے! دوسری قبروں پر پاؤں رکھے بغیر ماں باپ وغیرہ کی قبروں تک نہ جاسکتے ہوں تو دور ہی سے فاتحہ پڑھنا ہو گا، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے۔ **✽** قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائیں کہ بے ادبی ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ قبر کے پاس خالی جگہ ہو تو وہاں رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے۔ (مختصر از قبراویں کی 25 حکایات) قبرستان کی حاضری کے مزید فضائل اور آداب وغیرہ جاننے کے لئے امیر اہل سنت ڈاکٹر یگانہ علیا کے رسالے ”قبر والوں کی 25 حکایات“ کا مطالعہ فرمائیے۔

کُنْتُ نَهَيْتُکُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْهَا فَإِنَّهَا تَزْهِيْدُنِي الدُّنْيَا وَ تُزَكِّيْ الْمَآخِرَ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ، 2/252، حدیث: 1571) اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوٰی فرماتے ہیں: جس شخص کا دل سخت ہو گیا ہو زیارتِ قبور اس کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ (فیض القدر، 5/71) **میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! قبرستان میں حاضر ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے جو اگرچہ نفس پر کچھ گراں گزرتی ہے**

ابوالحسن عطار مدنی

لیکن اس کے لئے کوئی خاص مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ دیگر مواقع کے علاوہ شبِ براءت میں قبرستان جانا بھی سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ثابت ہے (ترمذی، 2/183، حدیث: 739) اور ہمارے یہاں بھی عموماً شبِ براءت میں قبرستان کی حاضری کا رواج ہے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن اسے صرف شبِ براءت تک محدود نہ کیا جائے بلکہ عام دنوں اور بالخصوص روزِ جمعہ قبرستان کی حاضری کو اپنا معمول بنانا چاہئے۔ اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے دل گناہوں سے اچُٹ ہو گا اور فکرِ قبر و آخرت پیدا ہوگی۔ **مزارات کی زیارت** سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم شہدائے احد کی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور یوں سلام فرماتے: سَلَّمَ عَلَیْکُمْ بِصَاحِبِزَّتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے) حضراتِ ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ کا بھی یہی معمول تھا۔ (درمنثور، 4/640) **سب قبر والوں کو**

محدث اعظم پاکستان اور خدمتِ حدیث

دنیا میں کچھ ایسے باکمال لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اور ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دے جاتے ہیں کہ ظاہری زندگی میں ان کے فیضان کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور وصال کے بعد بھی لوگ ان کا فیض پاتے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار بھی ایسی باکمال شخصیات میں ہوتا ہے۔ 1323ھ / 1905ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔⁽¹⁾ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایف۔ اے کرنے مرکز الاولیاء لاہور گئے اور وہاں سے شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حصولِ علمِ دین کے لئے بریلی شریف (یوپی، ہند) روانہ ہو گئے۔⁽²⁾ حضرت مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد دکنی (دین) و محدث باکمال تھے۔⁽³⁾ تمام علوم و فنونِ مروجہ میں آپ کو مہارت حاصل تھی لیکن حدیثِ رسول سے محبت آپ کا خاص وصف تھا، آپ خود فرماتے ہیں: لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کھاتے ہیں اور میں حدیثِ مصطفیٰ پڑھتا ہوں تو مجھے آرام ہو جاتا ہے۔⁽⁴⁾ حدیثِ پاک سے محبت ہی کے باعث آپ نے زندگی کا اکثر حصہ درسِ حدیث میں گزارا۔ دس سال تک دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف (ہند) میں⁽⁵⁾ اور قیام پاکستان کے بعد تادمِ حیات جامعہ رضویہ مظہر اسلام سردار آباد (فیصل آباد) میں درسِ حدیث کی خدمات سر انجام دیں⁽⁶⁾ اس عرصے میں سینکڑوں فضلاء نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔⁽⁷⁾ حدیث

رسول کی خدمت کی وجہ سے آپ کو محدث اعظم پاکستان کہا گیا⁽⁸⁾ آپ کی حدیثِ رسول سے محبت کا یہ عالم تھا کہ دورانِ درس جیسی حدیث ہوتی ویسی ہی آپ کی کیفیت ہوتی، اگر حدیث میں سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تبسم کا ذکر ہوتا تو آپ بھی مسکراتے، اگر گریہ و علالت کا تذکرہ ہوتا تو آپ بھی روتے۔⁽⁹⁾ دورانِ درس بارہا ایسا نورِ ظاہر ہوتا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی۔⁽¹⁰⁾ حکایت ایک مرتبہ ایک عقیدت مند نے آپ کی دعوت کی، آپ نے دعوت قبول فرمائی، کھانے کے بعد خدامِ حاضرین جو کھانا کھا چکے تھے ان سے فرمایا: مولانا خوب کھائیں، خوب کھائیں، خدام نے آپ کے ارشاد پر دوبارہ کھانا کھایا، پھر فرمایا: آج میں نے نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سرکارِ ابو ہریرہ والی سنت ادا کی ہے۔⁽¹¹⁾ اس حکایت میں محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اشارہ بخاری شریف کی اس حدیثِ پاک کی طرف ہے جس میں سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دودھ کے ایک پیالے سے ستر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو سیراب فرمایا اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا: پیو! انہوں نے سیر ہو کر پیا، پھر فرمایا: پیو! آپ نے سیر ہو کر پیا، پھر فرمایا: پیو!۔۔۔ الخ⁽¹²⁾ فنِ حدیث میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یدِ طولیٰ (کمال) حاصل تھا⁽¹³⁾ جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی صرف پہلی جلد سے علمِ غیبِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ثبوت پر 220، اختیار و فضائلِ رسول پر 150، معجزات و کرامات پر 50، فضائلِ صحابہ پر 40، اصولِ حدیث، اسماء الرجال اور تقلید پر 150 احادیث جمع فرمائیں۔⁽¹⁴⁾ حدیث میں شہرت و کمال ہی کی وجہ سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شارح و مفسر بھی آپ سے حدیث پڑھنے کے خواہشمند تھے۔⁽¹⁵⁾ علمائے عرب و عجم نے آپ کو حدیث کی اجازت دی، آپ کے کئی تلامذہ (شآرو) جلیل القدر محدث بنے، آپ نے اہم کتب (صحاح) پر تعلیقات لکھیں، آپ کے تلامذہ نے

مولانا محمد عبد الرشید جھنگوی، مُصَنِّف کُتُب کثیرہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین قادری رَضَوِی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن جیسی جلیل القدر شخصیات کے نام قابل ذکر ہیں۔⁽¹⁸⁾ تمام عمر درس و تدریس اور خدمت حدیث میں مشغول رہنے کے بعد یکم شعبان المعظم 1382ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ سنی رَضَوِی جامع مسجد سرور آباد (فیصل آباد) سے متصل آپ کا مزار مبارک مَرَجِعِ خُلَاقِ ہے۔⁽¹⁹⁾

کُتُب حدیث کی شروحات اور قرآن پاک کی تفاسیر لکھیں⁽¹⁶⁾ جو اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ آپ حقیقتاً مُحدِّثِ اعظم تھے۔⁽¹⁷⁾ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے فیضان سے فیض یاب ہونے والوں میں شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی، مفسر قرآن علامہ محمد ریاض الدین قادری، مُصَنِّف و مترجم کُتُب کثیرہ علامہ مفتی فیض احمد اویسی، مفسر قرآن علامہ جلال الدین قادری، شہزادہ صدر الشریعہ شیخ الحدیث مفتی عبد المصطفیٰ ازہری، شیخ الحدیث مفتی عبد القیوم ہزاروی، شارح بخاری علامہ غلام رسول رَضَوِی،

(1) حیات محدث اعظم، ص 27، (2) حیات محدث اعظم، ص 33، خلاصہ (3) تذکرہ محدث اعظم پاکستان، 35/2 (4) حیات محدث اعظم، ص 153 (5) حیات محدث اعظم، ص 54 (6) تذکرہ محدث اعظم پاکستان، 11/2 (7) تذکرہ محدث اعظم پاکستان، 13/1 (8) حیات محدث اعظم، ص 65، خلاصہ (9) حیات محدث اعظم، ص 62، خلاصہ (10) حیات محدث اعظم، ص 63، خلاصہ (11) تذکرہ محدث اعظم پاکستان، ص 228 (12) بخاری، 4/234، حدیث: 6452، خلاصہ (13) تذکرہ محدث اعظم پاکستان، 36/2 (14) حیات محدث اعظم، ص 137، خلاصہ (15) حیات محدث اعظم، ص 62، خلاصہ (16) تذکرہ محدث اعظم پاکستان، 10/2 (17) تذکرہ محدث اعظم پاکستان، 39/2 (18) تذکرہ محدث اعظم پاکستان، 43/2، خلاصہ، حیات محدث اعظم، ص 65، خلاصہ (19) حیات محدث اعظم، ص 334 تا 339، اخوۃ

پیامِ امامِ اہل سنت رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ

یَا ذِہِ تَعَالٰی حُقُوقِ الْعِبَادِ سے صحائفِ اعمال (یعنی اعمال نامے) خالی ہو کر بارگاہِ عزت میں پیش ہوں۔ حُقُوقِ مولیٰ تعالیٰ کے لئے توبہ صادقہ (یعنی سچی توبہ) کافی ہے۔ (حدیث پاک میں ہے: اَلْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَہُ (یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اُس نے گناہ کیا ہی نہیں)۔ (ابن ماجہ، 491/4، حدیث: 4250)) ایسی حالت میں یَا ذِہِ تَعَالٰی ضرور اس شب میں اُمیدِ مغفرتِ تامہ (یعنی مغفرت کی پکی اُمید) ہے بَشَرَطِ صِحَّتِ عَقِیدَہ۔ (یعنی عقیدہ درست ہونا شرط ہے) وَہُوَ الْعَفْوَ الرَّحِیمُ۔ (اور وہ گناہ مٹانے والا رحمت فرمانے والا ہے) (آقا کا مہینا، 12/13 تا 13، بحوالہ کلیاتِ مکاتیب ربنا، 1/356 تا 357)

اعلیٰ حضرت، امامِ اہل سنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَحْدَنِ کے ایک مکتوب میں ہے: شبِ براءتِ قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عَزَّوَجَلَّ بَطْفِیلِ حُضُورِ پُر نور، شافعِ یومِ النُّشُور صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسلمانوں کے دُذُوب (یعنی گناہ) معاف فرماتا ہے مگر چند، ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے: ”ان کو رہنے دو، جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔“ لہذا اہل سنت کو چاہئے کہ حتیٰ الوسع قبل غروبِ آفتاب 14 شعبانِ باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حُقُوق ادا کر دیں یا معاف کر لیں کہ



کاشف شہزاد عطاری مدنی

سال ذیابٹس اور اس کے متعلقہ امراض سے لگ بھگ 49 لاکھ لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ **ذیابٹس کیا ہے؟** خون میں شوگر کی مقدار کا معمول سے زیادہ یا کم ہو جانا ذیابٹس کہلاتا ہے البتہ زیادہ تر مریضوں کو شوگر کی مقدار بڑھ جانے کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ خالی پیٹ (نہار نہ) چیک کروانے کی صورت میں شوگر کی مقدار 80 سے 120 تک جبکہ کھانے کے بعد چیک کروائیں تو 120 تا 180 نارمل ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار مذکورہ اعداد (Figures) سے بڑھ جانا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس معاملے میں مختلف لیبارٹریوں (Laboratories) کے نتائج میں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے۔ **ذیابٹس کا ظاہری سبب** خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جانا اور لیلے (Pancreas) سے بننے والی انسولین کی مقدار کم یا بالکل ختم ہو جانا ذیابٹس کا ظاہری سبب ہے۔ **شوگر کی علامات** کثرت سے پیشاب آنا، معمول سے زیادہ پیاس لگنا، تیزی سے وزن کم ہونا، کمزوری اور بھوک کا احساس، مزاج میں چڑچڑاہٹ، بینائی میں دھندلاہٹ، زخم یا خراش کا جلدی نہ بھرنا، پاؤں میں سنسناہٹ (ایسا محسوس ہونا کہ جیسے پاؤں پر چوونیاں چل رہی ہوں) وغیرہ یاد رکھئے! ان علامات میں سے ایک یا بعض کے پائے جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ شوگر کے مریض ہیں البتہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے چیک اپ کروالینا چاہیے۔ **مدنی مشورہ** یہ علامات آپ میں موجود ہوں یا نہ ہوں شوگر کا ٹیسٹ ضرور کروالیں۔

کوئی مرض لا علاج نہیں مدینے کے سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ صحت نشان ہے: لَیْسَ دَاۤءٍ دَوَّاءٌ اِلَّا بِہٖ ہر بیماری کی دوا ہے۔ (مسلم، ص 1210، حدیث: 2204) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! یقیناً بڑھاپے اور موت کے سوا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کئی امراض کا علاج اطباء (Doctors) اب تک دریافت نہیں کر پائے۔ شوگر کی بیماری بھی انہی امراض میں سے ہے جن کا مکمل علاج تادم تحریر دریافت نہیں ہو سکا۔

مبلغ دعوتِ اسلامی مفتی محمد امین عطاری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِئِ خدمتِ دین کا جذبہ رکھنے والے ایک متحرک (Active) عالم دین تھے۔ درس و تدریس اور افتائوں کی علاوہ سنتوں بھرے بیانات بھی فرماتے تھے۔ دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کے نگران حضرت مولانا عمران عطاری رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے بھی آپ سے علمِ دین حاصل کیا۔ آپ شوگر کے مریض تھے لیکن آپ کو اس کا علم نہ تھا اور اسی مرض کے باعث 18 ذوالقعدة الحرام 1426ھ بروز منگل بمطابق 20 دسمبر 2005ء کو دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ وفات سے 3 دن پہلے گلا سوکھنے کی وجہ سے کافی مقدار میں گنے کا رس وغیرہ استعمال کیا لیکن افاتہ نہ ہوا۔ چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ شوگر 700 سے تجاوز کر چکی تھی۔ آپ کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ (ICU) میں منتقل کر دیا گیا، آپ نے وہیں اپنی جان جانِ آفرین کے سپرد کر دی۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ذیابٹس جسے عرفِ عام میں شوگر کہا جاتا ہے ایک حساس مرض ہے۔ بسا اوقات اس میں مبتلا شخص کو بھی علم نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہو چکی ہے۔ یہ لاعلمی یا علم ہونے کے باوجود بے احتیاطی بعض اوقات بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ **ذیابٹس کے مریضوں کی تعداد** عالمی ادارہ صحت (WHO) کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں ذیابٹس (Diabetes) کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 30 کروڑ سے زائد جبکہ پاکستان میں 70 لاکھ سے زائد ہے۔ دنیا میں ہر

ڈاکٹر کا تجربہ بتاتا ہے کہ ایک باریہ مرض لاحق ہو جانے پر عمر بھر دوا کا استعمال خوراک کی طرح ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر شوگر کا مریض خوراک میں مکمل احتیاط، دوا کا باقاعدگی سے استعمال اور ورزش کا معمول بنائے تو شوگر کے نقصانات کم سے کم ہو سکتے ہیں۔ **مدنی مشورہ** شوگر یا کسی بھی مرض کی تشخیص کی صورت میں Second Opinion ضرور لیں یعنی کسی دوسرے ڈاکٹر سے دوسری لیبارٹری کی رپورٹ کے ذریعے مرض کی تصدیق کروا لیں۔ **پیدل چلنے کا معمول بنائیے** شوگر کے مریض کو چاہیے کہ روزانہ تیس منٹ پیدل چلنے کا معمول بنائے۔ پہلے 10 منٹ آہستہ، اس کے بعد 10 منٹ تیز اور آخری 10 منٹ پھر آہستہ چلیں نیز شوگر چیک کرنے کا آلہ (Glucometer) اپنے گھر میں رکھ لیں اور وقتاً فوقتاً شوگر لیول چیک کرتے رہیں۔ **ان چیزوں سے پرہیز کیجئے** بیکری کی بنی ہوئی اشیاء (Bakery Items)، مٹھاس والی اشیاء مثلاً شربت، بند ڈبوں والے پھل، گنا، کولڈ ڈرنک، پڈنگ، شکر (چینی) آئس کریم، شکر قندی، انجیر، گڑ وغیرہ۔ **کم مقدار میں ضرورتاً استعمال کیجئے** چاول، کینو، مسمی، مالٹا، مرغی، اندہ، آلو، بیسن، آم (چھوٹا)، تلی ہوئی اشیاء، مٹر، چھندر، شامبم، گاجر، امرود، روٹی، دالیں، فالسہ، جامن، چیکو، بغیر چربی کا گوشت، کھانے کا تیل اور گھی، پنیر، شریفہ، ٹھٹھ، ملرجین مکھن، کیلا، دلیہ، آڑو، آلو بخارا، پیٹہ، خوبانی، تربوز، بغیر بالائی کے دودھ دہی، نوڈلز، مچھلی، سیب، خربوزہ وغیرہ۔ **مفید غذاؤں** کرلیا، اروی، کدو، سلاڈ، توری، ہری مرچ، مولی، بھنڈی، بند گوبھی، پھول گوبھی، بیٹن، ہری اور سوکھی پیاز، ککڑی، کھیرا، لیموں وغیرہ۔ **توجہ فرمائیے** شوگر کے مریضوں کو عموماً بلڈ پریشر (Blood Pressure) کا مرض بھی ہو جاتا ہے اس لئے مذکورہ اشیاء کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور فرمایا کیجئے کیونکہ بعض غذائیں شوگر کے لئے مفید جبکہ بلڈ پریشر والے کے لئے نقصان دہ ہوتی ہیں۔

نا سمجھ بیمار کو آخرت بھی زہر آمیز ہے
سچ یہی ہے سو دوا کی اک دوا پرہیز ہے

شوگر کا روحانی علاج

﴿وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجٍ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّجِيًّا﴾ (پ 15، بنی اسرائیل: 80) روزانہ صبح و شام اوپر دی ہوئی آیت مبارکہ تین بار (اول آخر ایک بار درود شریف) پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے (تا حصول شفاء)

شوگر کے گھریلو علاج

✽ خشک سونف اور خشک آم لہ ہم وزن پیس کر باریک چھان لیجئے، اب اس پر 313 بار درود پاک پڑھ کر دم کر کے رکھ لیجئے اور اندازاً چھ ماشہ (6 گرام) تا حصول شفاء روزانہ صبح و شام تازہ یا مٹکے کے پانی سے استعمال کیجئے۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے شوگر کم کرنے کا بہترین علاج پائیں گے ✽ روزانہ صبح و شام کرلیے کارس ایک ایک چمچ پی لیں ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ شوگر کی بیماری میں حیرت انگیز فائدہ ہو گا ✽ بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر (تا حصول شفاء) روزانہ صبح و شام پانچ پانچ دانے چبا کر نگل لیجئے ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ بہت فائدہ ہو گا۔ (گھریلو علاج، ص 64) ✽ میتھی دانے دردرے (یعنی موٹے موٹے) پسے ہوئے 20 گرام روزانہ کھانے سے ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ صرف دس دن کے اندر ہی پیشاب اور خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جائے گی ✽ شوگر کے تناسب سے میتھی دانوں کا استعمال روزانہ 100 گرام تک بھی کیا جاسکتا ہے ✽ لو (Low) شوگر کے مریض میتھی استعمال نہ کریں۔ (میتھی کے 50 مدنی پھول، ص 63 تا 64)

شوگر سے متعلق امیر اہل سنت کے متفرق مدنی پھول جس کو وسعت ہو وہ چائے میں چینی کے بجائے شہد استعمال کرے۔ ✽ ٹھنڈی بوتلوں (Cold Drinks) اور آئس کریم کے شائقین عام طور پر شوگر کے مریض بن جاتے ہیں۔ لوگ شاید ٹھنڈی بوتلوں کو بے ضرر سمجھتے ہوں گے حالانکہ 250 ملی لیٹر کی ایک ٹھنڈی بوتل میں تقریباً سات چمچ چینی ہوتی ہے، اور آئس کریم تو ایسا خاصہ ”شوگر بم“ ہے۔ وزن دار آدمی کو تو ٹھنڈی بوتل اور

شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، پھر کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے مزید ہاضم رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے جو آنکھوں، دماغ اور معدہ کیلئے بے حد مفید ہے اور یہ دل، معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے۔ (فیضان سنت، ص 247)

جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دیدے
اچھا ہے فقط وہ جو بیمارِ مدینہ ہے
(وسائلِ بخشش، ص 492)

آنکیریم کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہئے کہ یہ اس کے حق میں میٹھا زہر ہے ❀ کو لڈو تک چینی والی ہو یا ”شوگر فری“ دونوں ہی صورتوں میں صحتِ انسانی کے لئے نقصان دہ ہے۔

ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں ان کی انگلیوں سے ایک خاص قسم کی ”ہاضم رطوبت“ نکل کر کھانے میں شامل ہو جاتی ہے جو جسم میں انسولین (Insulin) کم نہیں ہونے دیتی اور اس سے



ڈاکٹر کا مران اسحاق عطاری

لو (Heatstroke) لگنے پر ابتدائی طبی امداد


یا بلکہ رنگ کا سوتی (Cotton) کا لباس پہنئے • بالخصوص دن 11 بجے سے 3 بجے کے درمیان دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجئے • گھر سے نکلتے ہوئے سر کو ڈھانپ لیں، پانی کی بوتل ساتھ رکھیں اور وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں • گرم اشیاء چائے، کافی وغیرہ سے پرہیز کریں • ممکنہ صورت میں دن میں دو سے تین مرتبہ غسل فرمائیں۔ **لو (Heat stroke) سے بچانے والی**

سُنّت جو شخص عمامہ باندھنے کا عادی ہو گا وہ لو (Heat stroke) لگنے اور دماغی فاج جیسے امراض سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ جسم انسانی میں سر کا پچھلا حصہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس جگہ سے دماغ پر سردی اور گرمی کا بہت جلد اثر ہوتا ہے۔ اس حصہ کی حفاظت کے لئے سُنّت کے مطابق عمامہ باندھنا بہت ہی احسن ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ اس طرح سر اور گردن کے ڈھک جانے سے نہ صرف لو لگنے سے حفاظت ہوگی بلکہ سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ (ماخوذ از عماد کے فضائل، ص 388 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

مزید تفصیلات کے لئے آمینر اہل سُنّت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے ”گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول“ (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ کیجئے۔

ٹھٹھے ٹھٹھے اسلامی بھائیو! ایک بار پھر موسم گرما کی آمد آمد ہے۔ گرمی کا موسم اللہ عزوجل کی ایک عظیم نعمت ہے لیکن بے احتیاطی کے باعث یہ موسم نعمت کے بجائے زحمت بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موسم میں زیادہ وقت تک دھوپ میں کام کرنے نیز گرم اور جس زدہ ماحول میں ٹھہرنے کے سبب انسان لو کا شکار ہو سکتا ہے۔ عموماً بچے، بوڑھے، کھلے آسمان تلے کام کرنے والے اور نشے کے عادی افراد کو لو لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

لو لگنے کی علامات سر میں درد اور چکر آنا • پیاس کی شدت • چہرے اور آنکھوں کا سرخ ہو جانا • بے چینی • چڑچڑاپن • دل کی دھڑکن بڑھنا • کمزوری • بے ہوشی • الٹی یعنی قے اور متلی آنا وغیرہ۔ **لو لگنے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد** لو کے شکار فرد کو پانی پلائیے • فوراً ٹھنڈی جگہ منتقل کر دیجئے • ستر کے علاوہ غیر ضروری کپڑے اتار کر برف یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں خصوصاً پیٹھ، بغل، گردن اور رانوں پر رکھئے • ممکنہ صورت میں ٹھنڈے پانی کے ٹب میں لٹائیے • جلد سے جلد اسپتال پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ **موسم گرما کی احتیاطیں** سفید



اشعار کی تشریح

(اس عنوان کے تحت بزرگان دین کے اشعار کے مطالب و معانی بیان کرنے کی کوشش ہوگی)

اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنی حکمتِ کاملہ کے مطابق لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ پہلے اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس جائیں اور وہاں سے محروم پھر کر ان کی خدمت میں حاضر آئیں تاکہ سب جان لیں کہ منصبِ شفاعت اسی سرکار کا خاصہ ہے، دوسرے کی مجال نہیں کہ اس کا دروازہ کھول سکے۔ (فتاویٰ رضویہ، 29/575)

برقِ انگشتِ نبی چمکی تھی اُس پر ایک بار
آج تک ہے سیئہ مہ میں نشانِ سوختہ

(حدائقِ بخشش، ص 136)

الفاظ و معانی: برق۔ بجلی۔ انگشت۔ انگلی۔ مہ۔ چاند۔ نشانِ سوختہ۔ جلنے کا نشان۔

شرح کلام رضا: پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرما کر اسے دو ٹکڑے فرما دیا تھا، اس کا نشان آج تک چاند پر موجود ہے۔ برق (بجلی) کی مناسبت سے اسی کو جلنے کے نشان سے تشبیہ دی گئی ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے سرکارِ نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے حتیٰ کہ انہوں نے حراء (پہاڑ) کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ (بخاری، 2/579، حدیث: 3868) شقی القدر (چاند کے ٹکڑے کرنے) کے معجزے کا بیان اس آیتِ مبارکہ میں بھی موجود ہے: ﴿اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ (پ 27، القم: 1)

چاند دو ٹکڑے ہو کر تَصَدَّق ہوا
دشمنِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے

یہ کیسے کھلتا کہ انکے سوا شفیع نہیں
عبث نہ اوروں کے آگے پیچیدہ ہونا تھا

(حدائقِ بخشش، ص 64)

الفاظ و معانی: پیچیدہ۔ بے چین۔ عبث۔ بے کار۔
شرح کلام رضا: قیامت کے دن شفاعتِ کبریٰ کیلئے لوگ مختلف انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خدمات میں حاضر ہونے کے بعد وہاں سے محروم ہو کر آخر کار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضری دیں گے اور شفاعت کی التجا پیش کریں گے، سرکارِ نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بارگاہِ خداوندی میں عرضِ معروض کریں گے اور پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو گا۔ لوگ اگر اولاً ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سلسلہ شفاعت کا آغاز ہو جاتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر ہم کسی اور نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی شفاعت فرما لیتے۔ دیگر بارگاہوں سے ہونے کے بعد آخر میں بارگاہِ محمدی میں آنے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ روزِ قیامت شفاعتِ کبریٰ کا مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور شفاعت کا دروازہ آپ ہی کھولیں گے۔

مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الفتویٰ فرماتے ہیں: قیامت کے دن مرتبہ شفاعتِ کبریٰ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) کے خصائص (یعنی خصوصیات) سے ہے کہ جب تک حضور فتح بابِ شفاعت (یعنی شفاعت کا آغاز) نہ فرمائیں گے کسی کو مجالِ شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتہً جتنے شفاعت کرنیوالے ہیں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عزوجل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) شفیع ہیں۔ (بہارِ شریعت، 1/70) اعلیٰ حضرت رحمۃ

باپ کو جلانے کے لئے لکڑیاں لے آؤں؟

(تجہیز و تکفین کے مسائل)

پڑھنا، اس کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے یعنی بعض لوگوں نے یہ کام کر لئے تو سب کی طرف سے ادا ہو گئے۔ (بہار شریعت، 842/1) کون سا گھر ایسا ہے کہ جہاں کبھی کوئی فوت نہ ہوا ہو؟ کون سی گلی ایسی ہے کہ جہاں سے کبھی جنازہ نہ اٹھا ہو؟ کون سا شہر ایسا ہے کہ جہاں کفن نہ ملتا ہو؟ جبکہ دینی معلومات کی حالت یہ ہے کہ سات سمندر پار کی خبریں رکھنے والے لوگ میت کے غسل، کفن، دفن وغیرہ کے احکام سے لاعلم ہوتے ہیں۔ آج کسی کا پیارا دنیا سے رخصت ہوا تو کل ہمارا عزیز سفر آخرت پر روانہ ہو سکتا ہے لہذا ہمیں چاہئے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میت کے غسل، کفن اور دفن وغیرہ کے احکام سیکھ لیں۔

غسل میت سے پہلے کے 4 کام [1] تختہ کو دھونی دیں یعنی

اگر بیتا یا لوبان جلا کر تین، پانچ یا سات بار غسل کے تختہ کے گرد پھرائیں۔ [2] میت کو تختہ پر لٹائیں۔ [3] نرمی سے کپڑے اٹاریں یا ضرورہ کا ٹکڑا لٹائیں مگر بے شری (بے پردگی) نہ ہو۔ [4] ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک گہرے رنگ کے موٹے کپڑے سے بدن چھپا دیں۔ (تجہیز و تکفین، ص 86 طسٹا) بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو۔ (بہار شریعت، 811/1)

غسل میت کے 7 مراحل [1] استنجہ کرانا (استنجا کرنا)

والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے [2] وضو کرانا (یعنی 3 بار چہرہ اور 3 بار کہنیوں سمیت ہاتھ دھلانا، ایک بار پورے سر کا مسح کرنا، 3 بار پاؤں دھلانا) [3] داڑھی اور سر کے بال دھونا [4] میت کو اٹلی کروٹ پر لٹا کر سیدھی کروٹ دھونا [5] میت کو سیدھی کروٹ پر لٹا کر اٹلی کروٹ دھونا [6] پیٹھ سے سہارا دیتے ہوئے بٹھا کر نرمی سے پیٹ

زم زم نگر حیدر آباد (باب الاسلام سندھ پاکستان) کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لُب لباب ہے کہ 2001ء میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے سیٹھ کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اُس کے عالیشان بنگلے میں جمع تھے کہ مرحوم کا 19 سالہ بیٹا جو کہ ایک ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا، کہیں جانے کے لئے ایک دم غلٹ (یعنی جلدی) میں اُٹھا، کسی نے غلٹ کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا: ”میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے سوچا کہ آخری وقت اپنے ہاتھوں سے ان کی کچھ خدمت کر لوں، چنانچہ ان کی میت کو جلانے کے لئے میں خود لکڑیاں لے کر آؤں گا۔“ یہ سُن کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا باپ تو مسلمان تھا، پھر اس کو جلانے کے لئے لکڑیاں کیوں لینے جا رہا ہے! غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس نادان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لئے ہوں گے اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو گی کہ جو بھی مر جائے اُس کو جلانا ہوتا ہے۔ اس فلمیں دیکھنے کے شوقین کو یہ پتا ہی نہ ہو گا کہ مسلمانوں کو جلایا نہیں دُفایا جاتا ہے۔ بہر حال اس کے مرحوم والد کی تدفین کر دی گئی۔ جب فلموں کے اس خوفناک منفی اثر (Negative Impact) کا یہ واقعہ اُس علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہیں بڑی عبرت ہوئی، کئی نوجوانوں نے جوش میں آکر ”کیبل“ کاٹ ڈالے۔ کچھ عرصے تک یہی صورت حال رہی مگر رفتہ رفتہ نفس و شیطان غالب آئے اور کیبل پھر سے جوڑ لئے گئے۔ (بیکٹی کی دعوت، ص 582)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اس انوکھے واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے۔ یاد رکھئے! میت کو نہلانا، کفن دینا، اس کی نماز جنازہ

کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیرنا (شر کے مقام پر نہ نظر کر سکتے ہیں، نہ بغیر کپڑے کے شر کے مقام کو چھو سکتے ہیں) {7} ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے جبکہ تین مرتبہ بہانا سنت ہے (آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہا کر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پونچھ دیں)۔ (تجہیز و تکفین کا طریقہ، ص 86، خلاصہ)

کفن پہنانے کے 9 مراحل {1} کفن کو دھونی دینا {2} کفن بچھانا یعنی سب سے پہلے لفافہ (بڑی چادر) پھر ازار (چھوٹی چادر) پھر قمیص، بچھانا {3} کفن باندھنے کے لئے دھجیاں رکھنا {4} میت کو کفن پر رکھنا {5} شہادت کی انگلی سے سینے پر پہلا کلمہ، دل کی جگہ پر یار رسول اللہ (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) لکھنا {6} قمیص پہنانا اور ناف و سینے کے درمیانی حصہ کفن پر مشائخ کے نام لکھنا {7} اعضائے سبوء (یعنی جن اعضا پر سجدہ کیا جاتا ہے ان) پر کافور لگانا {8} پیشانی پر شہادت کی انگلی سے بِسْمِ اللہ لکھنا {9} لفافہ یعنی بڑی چادر پہلے اُلٹی طرف سے پھر سیدھی طرف سے لپیٹنا۔

(تجہیز و تکفین کا طریقہ، ص 101 تا 104، خلاصہ)

تدفین کے 17 مراحل {1} قبرستان میں دفن کے لئے ایسی جگہ لینا جہاں پہلے قبر نہ ہو {2} قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ، چوڑائی آدھے قد اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی ہو اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر رکھی جائے {3} قبر میں پکی ہوئی اینٹوں کی دیوار بنی ہو تو میت لانے سے پہلے قبر اور سلیبوں کا اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لپیٹنا {4} اندرونی تختوں پر یسین شریف، سورۃ الملک اور درود تاج پڑھ کر دم کرنا (تجہیز و تکفین کا طریقہ، ص 132 تا 133، خلاصہ) {5} چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں طاق بنا کر عہد نامہ، شجرہ شریف وغیرہ تبرکات رکھنا (ہار شریعت، 1/848) {6} میت کو قبلے کی جانب سے قبر میں اتارنا {7} عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھنا {8} قبر میں اتارتے وقت یہ دُعا پڑھنا: بِسْمِ اللہِ وَبِاللہِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللہِ {9} میت کو سیدھی کروٹ پر لٹانا یا منہ قبلے کی

طرف کرنا اور کفن کی بندش کھول دینا (سیدھی کروٹ کے لئے میت آنے سے پہلے پیٹھ کے مقام پر نرم مٹی یا ریت کا تکیہ سبائیں، ایسا نہ ہو سکے تو صرف چہرہ جتنا آسانی قبلہ رخ ہو سکے کر دیں) {10} بعد دفن سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی ڈالنا، پہلی بار مِنْہَا عَفَنُکُمْ، دوسری بار وَفِیْہَا لَعْنُکُمْ اور تیسری بار وَوَمِنْہَا نَحْرُجُکُمْ تَاْمَرًا اٰخَرًا {11} قبر اونٹ کے کوبان کی طرح ڈھال والی بنانا اور اونچائی ایک باشت یا کچھ زیادہ رکھنا {12} بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا {13} قبر پر پھول ڈالنا کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل پہلے گا {14} دفن کے بعد سرہانے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اَللّٰہُمَّ تَاْمُرُ الْمَوْتُ اور قدموں کی طرف آخری رکوع اَمِّنَ الرَّسُوْلُ سے ختم سورت تک پڑھنا {15} تلقین کرنا: قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر تین مرتبہ یوں کہئے: یا قُلُوبُ بَنِی فُلَانٍ! (مثلاً یا فاروق بن آمنہ۔ اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو اس کی جگہ حضرت حوا رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا نام لے) پھر یہ کہئے: اَذْکُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَیْہِ مِنَ الدُّنْیَا شَہَادَةً اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَنْکَ مُحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) وَاَنْکَ رَضِیْتَ بِاللّٰہِ رَبًّا وَبِاِلٰہِ سَلَامٍ وِیْنًا وَبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نَبِیًّا وَبِالنَّبِیِّ اِنْ اِمَامًا {16} دعا و ایصالِ ثواب کرنا {17} قبر کے سرہانے قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان دینا (تجہیز و تکفین کا طریقہ، ص 134 تا 144، خلاصہ) کہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ملتا اور عذابِ قبر سے نجات ملتی ہے نیز منکر نگیر کے سوالات کے جوابات یاد آجاتے ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، 5/370، ماخوذاً)

نوٹ مزید تفصیل کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ”تجہیز و تکفین کا طریقہ“ کا مطالعہ فرمائیے اور غسل میت وغیرہ کی تربیت حاصل کرنے کے لئے ”مجلس تجہیز و تکفین (دعوتِ اسلامی)“ کے ذمہ داران سے رابطہ فرمائیے۔

tajheezotakfeen@dawateislami.net

(نقطہ 2)

بہو کو کیسا ہونا چاہئے؟

گزشتہ سے پیوستہ

تعلقات خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے: جو کسی غزودہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ عزوجل اُسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا اور رُوحوں کے درمیان اس کی رُوح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کریگا اللہ عزوجل اُسے جنت کے جوڑوں میں سے دوالیے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت (ساری) دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ (معجم الاوسط، 6/429، حدیث: 9292) (12) بہو کو چاہئے کہ گھر کے افراد سے حسب مرتبہ تعظیم سے بات کرے، یہ اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرے گا۔ ٹوٹکار سے بات کرنا اور کسی کے سخت یا نامناسب لہجے کے جواب میں ”لینٹ کے جواب میں پتھر“ مارنے کا مصداق بننا قطعاً درست نہیں۔ نرمی اور برداشت کس طرح گھر کیلئے ماحول میں مناسبت بھرتی ہے اس کا اندازہ اس حکایت سے لگائیے **فرضی حکایت** کوثر کی اپنی ساس کے ساتھ اکثر نوک جھوک لگی رہتی تھی، ساس کسی نہ کسی بات پر اعتراض کر دیتی اور کوثر جواب دینے لگتی یوں ٹوٹکار کا سلسلہ دراز ہو جاتا، ایک دن کوثر نے اپنے بھانجے عمیر کو محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لئے بھیجا کہ میری ساس ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہے کوئی اچھا سا تعویذ دے دیں۔ امام صاحب عالم دین اور سمجھدار بزرگ شخصیت تھے، سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے عمیر کو ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ اپنی خالہ سے کہنا یہ تعویذ سنبھال کر رکھیں جب بھی اُن کا ساس سے جھگڑا ہو تو اسے داڑھ کے نیچے خوب دبائے۔ کوثر نے ایسا ہی کیا، ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا اور ساس بہو میں محبت بڑھنے لگی، کوثر نے امام صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لئے عمیر کو اُن کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا: بیٹا! مسئلہ تعویذ کا نہیں تھا بلکہ اس کی زبان کا تھا، جب اس کی زبان مقابلہ کرتی تھی تو لڑائی بڑھتی تھی، اس نے خاموشی اپنائی تو گھر امن کا گہوارہ بن گیا۔

(7) بہو کو چاہئے کہ گھر کے افراد کے آپسی جھگڑے میں فریق نہ بنے، بلکہ جہاں ممکن ہو حکمت عملی سے غیر جانبدار رہ کر صلح کی کوشش کرے کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ (پارہ 26، الحجرات: 10) صلح کروانے سے جہاں بارگاہ الہی سے ثواب کی دولت ملے گی وہیں اہل خانہ کی جانب سے عزت افزائی بھی نصیب ہوگی۔ (8) ایک کا راز دوسرے کو بتا کر ہمدرد بننے کی کوشش نہ کرے، مثلاً ساس کی کمیٹی (مینی کھلی) تو سسر کو بتا کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یا ایک نند کا راز دوسری کو بتا کر اچھی بننا اپنا ہی مستقبل خراب کرنا ہے کہ پول بالآخر کھل ہی جاتا ہے۔ (9) جہیز اگرچہ بہو کی ملکیت ہوتا ہے، لیکن اگر سسرال کے چولہے اور توپے پر اس کا کھانا تیار ہو سکتا ہے تو بہو کو بھی اپنے جہیز کے کپ میں چائے پیش کرنے میں تنگ دل نہیں ہونا چاہئے، سسرال کی ہر چیز کو استعمال کرتے رہنا اور اپنے سامان کو ہوانہ لگنے دینا بھی بعض اوقات گھریلو جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے۔ (10) گھر کا سکون برباد کرنے میں سب سے زیادہ کردار ”گھر کی باتیں باہر کرنے، سسرال والوں کی غیبت و چغلی کرنے اور اُن کی شکایات میکے میں کرنے“ کا ہے، اس طرح غیبتوں، تہمتوں، چغلیوں اور دل آزاریوں وغیرہ طرح طرح کے گناہوں کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے بارہادنیائیں یہ آفت آتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا بہو پر لازم ہے کہ غیبت، چغلی اور الزام تراشی جیسی مہلک بیماریوں سے بچی رہے۔ (11) ساس کسی وجہ سے پریشان ہو تو اُس کی دلجوئی کرے کہ اس سے باہمی

ٹھنڈک و گرمی لینا صحت کیلئے نقصان دہ ہے اس لئے ایسا نہ کریں نیز یہ شیطانی نشست ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ (مرآۃ المناجیح، 6/387 طبعاً) ● جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگنے کی بجائے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے۔ ● راستے میں بیٹھنے سے بچئے۔ ● قبر پر نہ بیٹھئے۔ ● پیر، استاد اور بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔ ● بزرگوں کے سامنے آداب و زانو بیٹھئے۔ ● جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ (جامع صغیر، ص 40، حدیث: 554) ● مخاطبہ، ذکر و دُرد وغیرہ کے مواقع پر اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنائیے۔ ● مُلَیِّح اور مُدَرِّس کیلئے دورانِ بیان و تدریس عُنّت یہ ہے کہ پیٹھ قبلہ کی طرف ہو تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانبِ قبلہ ہو سکے۔ ● کھانا کھاتے وقت اُلتا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھئے۔ (حکمت) اس سے تلی کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے اور رانوں کے پیٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ● یا سُرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھئے۔ (حکمت) اس طرح بقدر ضرورت ہی کھانا معدے میں جاتا ہے جس کے سبب امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ● یادوں و قدموں کی پشت پر دوزانو بیٹھئے۔ (احیاء العلوم، 2/5) ● کھاتے ہوئے چار زانو بیٹھنے سے بچئے۔ (حکمت) کہتے ہیں چوڑی مار کر کھانے کے عادی کا مونہا بڑھتا اور توند نکل آتی ہے۔ نیز درد و تِلْج (بڑی آنت کا درد) ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ ایک آدمی کا کہنا ہے: میں نے ایک انگریز کو دیکھا کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے زمین پر سرین لگا کر کھارہا تھا، میں نے حیرت سے اس کا سبب پوچھا، تو فوراً اپنے نکلے ہوئے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا: ”اس کو اندر کرنے کیلئے۔“ (فیضان سنت، ص 220) ● جانوروں کی کھال پر بیٹھنے کی حکمتیں ● بکری (بکرا) اور مینڈھے کی کھال پر بیٹھنے سے مزاج میں نرمی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ● درندے کی کھال پر نہ بیٹھئے کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ (نکّص از بہار شریعت، 1/402)



بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اگر ہم اللہ کے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتوں پر عمل کریں تو اچھی نیت کے صدقے ثواب کے حق دار بھی قرار پائیں گے اور کام میں بھی برکت ہوگی۔ اس لئے ہمارا ہر کام حُثّی کہ بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہونا چاہئے۔ (بیٹھنے کی نیتیں) (موقع ملاو) یہ نیت ادائے سنت قبلہ رخ بیٹھوں گا۔ غیر محتاط انداز میں بیٹھ کر دوسروں کیلئے بد نگاہی کا سامان نہیں کروں گا بلکہ پردے میں پردہ کر کے بیٹھوں گا۔ علم دین کی مجلس، اجتماع ذکر و نعت اور علمائے دین کی بارگاہوں میں بن پڑا تو آداب و زانو بیٹھوں گا۔ (ثواب بڑھانے کے نسخے، ص 17) ● حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بیٹھنے کے انداز (1) پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اکثر قبلہ رو اور (2) دوزانو بیٹھا کرتے تھے۔ (مرآۃ المناجیح، 8/90) (3) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے چار زانو (یعنی پالتی مار کر) بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ (ابوداؤد، 4/345، حدیث: 485) (4) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو کعبہ شریف کے صحن میں احتباً کی صورت میں بھی تشریف فرما دیکھا گیا۔ (بخاری، 4/180، حدیث: 6272) احتباً کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے۔ اس قسم کا بیٹھنا عاجزی و انکساری میں شمار ہوتا ہے۔ (نکّص از بہار شریعت، 3/432) ● بیٹھنے کی سنتیں اور آداب ● ایسی جگہ نہ بیٹھئے کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ چھاؤں میں ہو۔ (حکمت) کیونکہ سایہ ٹھنڈا ہے اور دھوپ گرم اور بیک وقت ایک جسم پر



احکام تجارت

شرعی رہنمائی فرمائیں کہ (1) اس طرح کا اکاؤنٹ کھلوا کر فری منٹس لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور جو ریٹیلر رقم جمع کرتا ہے اس کے لئے کیا حکم ہے؟ (2) اگر کوئی اس ارادے سے اکاؤنٹ کھلوائے کہ میں فری منٹس نہیں لوں گا فقط رقم ٹرانسفر کرنے یا بل جمع کروانے کے لئے رقم جمع کرواؤں گا اور اسی وقت ہی رقم ٹرانسفر کروں گا یا بل جمع کروادوں گا ایک دن گزرنے ہی نہیں پائے گا تو کیا اس طرح اکاؤنٹ کھلوانا شرعاً جائز ہے؟ (3) اور اگر کسی نے اکاؤنٹ کھلوالیا ہے کیا وہ اس اکاؤنٹ کو اس نیت سے باقی رکھ سکتا ہے کہ وہ ایک دن تک رقم جمع نہیں رہنے دے گا بلکہ فقط رقم ٹرانسفر کرنے یا بل جمع کروانے کے لئے رقم جمع کروا کر اسی وقت رقم ٹرانسفر کر دے گا یا بل جمع کروادے گا؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَحَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

(1) ہزار روپے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے بدلے جو فری منٹس ملتے ہیں وہ سود اور حرام ہیں، لہذا اتنی یا اس سے زائد رقم مذکورہ طریقے پر جمع رکھنا ناجائز و حرام ہے اور جو ریٹیلر جمع کرے گا وہ بھی گنہگار ہے کہ گناہ کے کام پر مدد کر رہا ہے۔

تفصیل اس میں یہ ہے کہ جمع کروائے جانے والے 1000 روپے نہ امانت ہیں اور نہ تحفہ (ہبہ) بلکہ قرض ہیں۔ تحفہ اس لئے نہیں کہ تحفہ کہتے ہیں کسی چیز کا دوسرے کو بلا عوض مالک کر دینا۔ جبکہ اس صورت میں مقصود اس مالک کرنا نہیں ہوتا، مالک کرنا مقصود ہوتا تو پیسے واپس نہ لئے جاتے۔ دُرر میں ہے: ترجمہ: ہبہ نام ہے کسی عین کا بغیر عوض مالک کر دینا۔ (در شرح غرر، 2/217)

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک کمپنی نے یہ اسکیم (Scheme) بنائی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے موبائل میں اکاؤنٹ (Account) بنالیتا ہے اور پھر ریٹیلر کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں کم از کم 1000 روپیہ جمع کروادے اور ایک دن گزر جائے تو کمپنی اس شخص کو مخصوص تعداد میں فری منٹس (Free Minutes) دے دیتی ہے، اس اکاؤنٹ کے کھلوانے کے لئے کوئی فارم وغیرہ فل (Fill) نہیں کرنا پڑتا اور فری منٹس ملنا اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ میں کم از کم 1000 روپیہ جمع رہیں جیسے ہی ایک روپیہ اس مقدار سے کم ہوگا تو یہ سہولت ختم ہو جائے گی۔ موبائل اکاؤنٹ میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ اپنے اس اکاؤنٹ کے ذریعے رقم ٹرانسفر بھی کی جاسکتی ہے اور اس صورت میں ریٹیلر (Retailer) کے ذریعے بھیجے کی نسبت 22 فیصد کم پیسے لگیں گے اور اس سہولت کے لئے پہلے سے کوئی رقم ہونا ضروری نہیں ہے جس وقت رقم بھیجی جے اسی وقت وہ رقم ساتھ میں ٹیکس ڈالوا کر ٹرانسفر کر دیں تو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ ٹیکس سے مراد ٹرانسفر کی فیس ہے اور اکاؤنٹ بنانے پر بھی کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا اور اس صورت میں فری منٹس وغیرہ کوئی سہولت بھی نہیں ملے گی جبکہ رقم ایک دن جمع نہ رکھیں بلکہ اسی دن کے اندر ٹرانسفر کر دیں۔ اس اکاؤنٹ میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے یوٹیلیٹی بل (Utility Bill) بھی جمع کروایا جاسکتا ہے اور یہ بل جمع کروانے کے لئے بھی کوئی رقم اکاؤنٹ میں ہونا ضروری نہیں اور اس جمع کروانے پر کوئی ٹیکس بھی نہیں لگے گا اور اس صورت میں فری منٹس وغیرہ کوئی سہولت بھی نہیں ملے گی جبکہ رقم ایک دن جمع نہ رکھیں بلکہ اسی دن کے اندر ٹرانسفر کر دیں۔

اور امانت اس لئے نہیں کہ امانت والے پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتے بلکہ یعنی وہی رقم واپس کرنی ہوتی ہے جبکہ یہاں جمع کروائی گئی رقم کو کمپنی استعمال کرتی رہتی ہے اور واپسی میں اس کی مثل رقم دیتی ہے اور یہی قرض ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ قرض ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ قرض کا لفظ ہی استعمال کیا جائے، بلکہ اگر قرض کا لفظ استعمال نہ کیا لیکن مقصود وہی ہے جو قرض سے ہوتا ہے تو وہ قرض ہی ہوگا، کیونکہ عقود (خرید و فروخت) میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے: ترجمہ: جب اس کو مضاربت⁽¹⁾ بناسکتے ہیں تو وہ قرض ہو جائے گا کیونکہ یہ قرض کے معنی میں ہے اور عقود میں ان کے معانی کا اعتبار ہوتا ہے۔ (بدائع الصنائع، 6/86، بیروت)

اور قرض کی تعریف تنویر الابصار میں یوں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: قرض وہ عقد مخصوص ہے جس میں مثلی مال (قدر و قیمت میں اسی جیسا مال) دیا جاتا ہے اس لئے کہ اس کا مثل واپس کیا جائے۔ (در مختار، 7/406-407، کوئٹہ) فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”زرا امانت (امانت کے مال) میں اس کو تصرف حرام ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، 19/166، لاہور) اور اس رقم کو جمع کروانے کے بدلے میں حاصل ہونے والی رقم، فری منٹس اور ایس، ایم، ایس، سب قرض سے حاصل ہونے والے منافع ہیں اور جو منافع قرض سے حاصل ہوتے ہیں وہ سود ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے: ترجمہ: رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر وہ قرض جو نفع کھینچے تو وہ سود ہے۔ (مسند الحارث، 1/500، المدینۃ المنورۃ) گناہ پر مدد کرنے سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ (پ، 6، المائدہ: 2) (2) اگر کوئی اکاؤنٹ صرف رقم ٹرانسفر کرنے یا بل جمع کروانے کے لئے کھلوائے اور ایک دن رقم جمع نہ رہنے دے تو اس کے باوجود اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں کیونکہ جب یہ بات معروف ہے کہ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اگر ایک دن رقم جمع رہی تو فری منٹس ملیں گے تو اب اکاؤنٹ کھلوانے والا گویا یہ

اقرار و پیمان کر رہا ہے کہ اگر میں نے ایک دن رقم جمع نہ دی تو فری منٹس لوں گا اور یہ اقرار و پیمان ہی ناجائز ہے اگرچہ بعد میں ایک دن رقم جمع نہ رہنے دے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”ملازمت بلا اطلاع چھوڑ کر چلا جانا اس وقت تنخواہ قطع کرے گا نہ تنخواہ واجب شدہ کو ساقط اور اس پر کسی تاوان (جرم) کی شرط کر لینا مثلاً نوکری چھوڑنا چاہے تو اتنے دنوں پہلے سے اطلاع دے، ورنہ اتنی تنخواہ ضبط ہوگی یہ سب باطل و خلاف شرع مظہر ہے، پھر اگر اس قسم کی شرطیں عقد اجارہ میں (ملازمت کا معاہدہ کرتے وقت) لگائی گئیں جیسا کہ بیان سوال سے ظاہر ہے کہ وقت ملازمت ان قواعد پر دستخط لے لئے جاتے ہیں، یا ایسے شرائط وہاں مشہور و معلوم ہو کر اَلْمَعْرُوفُ کَالْمَشْهُورِ ہوں، جب تو وہ نوکری ہی ناجائز و گناہ ہے، کہ شرط فاسد سے اجارہ فاسد ہوا، اور عقد فاسد حرام ہے۔ اور دونوں عاقد (معاہدہ کرنے والے) مُتَکَلِّمَیْنِ گناہ، اور ان میں ہر ایک پر اس کا فسخ (ختم کرنا) واجب ہے، اور اس صورت میں ملازمتین تنخواہ مقرر کے مستحق نہ ہوں گے، بلکہ اجر مثل (یعنی عام طور پر بازار میں اس کام کی جو اجرت ہے اتنی ہی اجرت) کے جو مشاہرہ معینہ (طے شدہ اجرت) سے زائد نہ ہوں، اجر مثل اگر مُسْتَحَقٌّ سے کم ہو تو اس قدر خود ہی کم پائیں گے، اگرچہ خلاف ورزی اصلاً نہ کریں۔“ (فتاویٰ رضویہ، 19/506-507، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

(3) اوپر واضح ہو چکا کہ یہ اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے اگرچہ رقم ایک دن جمع نہ رہنے دے کیونکہ اس میں ایک ناجائز معاہدہ موجود ہے اور ناجائز معاہدہ جس طرح ابتداء کرنا جائز نہیں اسی طرح اس ناجائز معاہدے کو برقرار رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا لہذا جس نے اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے اس پر لازم ہے کہ یہ اکاؤنٹ ختم کرے۔ جیسا کہ اوپر فتاویٰ رضویہ کے جزیئہ میں امام اہل سنت عَلَیْہِ الرِّضْوۃ نے ناجائز شرط کی وجہ سے جب عقد کو ناجائز قرار دیا تو بعد میں اس کے فسخ کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کتابہ
الجواب صحیح
محمد ہاشم خان
العتاری المدنی
المتخصص فی الفقہ الاسلامی
محمد عرفان مدنی
01 ربیع الاول 1438ھ/01 دسمبر 2016ء

1۔ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام (بہار شریعت، 1/3)

مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیے

دوران تجارت لمناؤں کے ساتھ
خیر خواہی

فروش (بہگ بیچنے والے) متحرک ہو جاتے ہیں اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء مثلاً آٹا، گھی، چینی، دالوں، کھجوروں، پھلوں اور سبزیوں وغیرہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں بلکہ بعض اوقات تو گاہک کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناقص اور خراب چیزیں بھی بیچ دی جاتی ہیں اور رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بجائے فائدے کے الٹا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یونہی عید کا موقع آتا ہے، کپڑے، جوتے وغیرہ منگنے کر دیئے جاتے ہیں۔ گویا ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ملک و قوم کا خواہ کتنا ہی خسارہ ہو جائے، مسلمان بھائی کتنا ہی مالی بد حالی کا شکار ہو جائے مگر میری دولت میں اضافہ ہونا چاہئے۔

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی والا معاملہ کیا جاتا ہے جبکہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والے کو اپنے ساتھ اسی قسم کے سلوک کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ حضور نبی رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: **اَلْدِّیْنُ لَا یُتَمَلَّ وَلَا یُتَمَلَّ وَلَا یُتَمَلَّ وَلَا یُتَمَلَّ وَلَا یُتَمَلَّ وَلَا یُتَمَلَّ** یعنی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلائی نہیں جاتا، جزا دینے والا (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) کبھی فنانہیں ہوگا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔“ (مصنف عبد الرزاق، 10/189، حدیث: 20430) حضرت علامہ عبدالرزاق مَنَواوی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْبَارِی “کَمَا تَدِیْنُ تُدَانُ” کی وضاحت میں لکھتے ہیں: یعنی جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ (التبیین، 2/222)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں لوگوں کے لئے نقصان دہ نہ بنائے بلکہ فائدہ دینے والے عظیم لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لئے ہر دم کوشاں رہیں۔

اٰمِیْن بِجَاوِزِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

حضور نبی رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے تو تم اس کی خیر خواہی کرو۔ (صحیح مسلم، ص 919، حدیث: 5651 ملقط) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے (اور فرماتے ہیں:) دل سے خیر خواہی مطلقاً فرض عین ہے اور وقت حاجت دُعا سے امداد و اعانت بھی ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس سے کوئی عاجز نہیں اور مال یا اعمال سے اعانت فرض کفایہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں: مسلمانوں کی خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، 14/174-16/243)



تجارت میں خیر خواہی کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گاہک کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ رعایت کرتے ہوئے سستے داموں میں چیز دے دی جائے۔ بعض ہول سیلرز سے اگر نقد پر مال خریدیں تو وہ کم قیمت پر دیتے ہیں لیکن اگر ادھار پر خریدیں تو زیادہ قیمت پر دیتے ہیں، یہ عمل اگرچہ جائز ہے لیکن اگر خیر خواہی کرتے ہوئے کسی ضرورت مند گاہک کو ادھار میں بھی نقد والی قیمت پر مال دیا جائے تو ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ گاہک کے دل کی دعائیں نصیب ہوں گی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ماہِ رمضان کی آمد آمد ہے، ماہِ صیام کے آتے ہی لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے گراں

اور ان کا پیشہ

ابو حارث عطاری مدنی

گزشتہ سے پیوستہ

نظر آتا ہے، جبکہ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پیشہ اختیار کرنے کے ارادے سے کسی سے مدد طلب کرنے آئے تو وہ اپنے پیشے کے متعلق معلومات دینے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ فی زمانہ لوگوں کی حالت ناقابل بیان ہو چکی ہے، خیر خواہی تو دور کی بات ہے، اب تو لوگ دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی اتنی عام ہو چکی ہے کہ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنے اور اپنی رقم لگانے (Invest کرنے) سے ڈر ہی لگتا ہے۔

اس بے اعتمادی کی بڑی وجہ خود اس کے ماضی کے تجربات یا مشاہدات ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آیا تھا جس میں آدمی بازار میں داخل ہو کر (بازار والوں سے) پوچھتا: تمہارے خیال میں مجھے کس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے؟ تو اس سے کہا جاتا: جس سے چاہو معاملہ کرلو۔ پھر وہ زمانہ آیا جس میں یہ جواب ملتا: جس سے چاہو معاملہ کرلو مگر فلاں فلاں شخص سے نہ کرنا، اس کے بعد وہ زمانہ آیا جس میں کہا جاتا: فلاں فلاں شخص کے سوا کسی سے معاملہ نہ کرنا اور اب میں ایسے زمانے کے آنے سے ڈرتا ہوں جس میں یہ لوگ بھی رخصت ہو جائیں۔“ اس فرمان کو ذکر کرنے کے بعد امام غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جس چیز کے ہونے کا ان بزرگ کو ڈر تھا گویا اب وہ ہو چکی ہے (یعنی اب ایسے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں) **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ**

لہجہ (احیاء العلوم، 2/111، اتحاف السادة المتقين، 6/437)

غور کیجئے! امام غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کے زمانے یعنی پانچویں صدی ہجری کے آخر میں آج سے تقریباً 900 سال پہلے یہ معاملہ تھا اور اب تو جو حالت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔

حکایت ایک بار بصرہ میں ریشمی کپڑا مہنگا ہو گیا، حضرت یونس بن عبید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ایک شخص سے 30 ہزار درہم کا ریشمی کپڑا خریدا اور خریدنے کے بعد بیچنے والے سے پوچھا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلاں فلاں جگہ مال مہنگا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نہ بیچتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: اپنا مال لے لو اور میری رقم مجھے واپس دے دو، چنانچہ اس نے 30 ہزار درہم لوٹا دیئے۔ (سیر اعلام النبلاء، 6/464) یہ آپ کی اس شخص کے ساتھ بھلائی تھی کہ ریشمی کپڑے کے مہنگا ہونے کا بتا دیا جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر قیمت بڑھ جانے کی بات دل میں چھپائے رکھتے اور یوں چند رسکوں کی خاطر آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔

حکایت ایک مرتبہ ایک عورت ریشم کی منتقش چادر بیچنے کے لئے لائی، آپ نے پوچھا: کتنے میں بیچو گی؟ اس نے کہا: 60 درہم میں، آپ نے وہ چادر پڑوسی دکاندار کو دکھائی اور اس کی رائے طلب کی تو اس نے کہا: یہ 120 درہم کی ہے۔ آپ نے فرمایا: میرے خیال میں بھی اس کی اتنی ہی قیمت ہے، پھر عورت سے فرمایا: جاؤ اور اپنے گھر والوں سے چادر کو 125 درہم میں بیچنے کا مشورہ کر کے آؤ، اس نے کہا: میرے گھر والوں نے مجھے 60 درہم میں بیچنے کا کہا ہے، آپ نے پھر فرمایا: جاؤ، گھر والوں سے مشورہ کر کے آؤ۔ (سیر اعلام النبلاء، 6/462) یعنی جب آپ نے دیکھا کہ یہ عورت چادر کی اصل قیمت نہیں مانگ رہی تو اس کی خیر خواہی کے پیش نظر اصل قیمت سے بھی کچھ بڑھا کر دینے کی پیش کش کی۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بزرگانِ دین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی شخصیت میں خیر خواہی کا وصف نمایاں طور پر

تجارت شروع کرنے کے مدنی پھول

فرمان علی عطاری مدنی



کیجئے ایسی تجارت شروع کیجئے جو شریعت میں جائز ہو کیونکہ حرام ذریعے سے حاصل ہونے والا مال برکت سے خالی اور دنیا و آخرت کے وبال کا سبب ہوتا ہے جیسا کہ امام محمد بن عبد اللہ بن عربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: کھایا جانے والا لقمہ اگر حرام ہو تو حرام، مکروہ ہو تو مکروہ اور مُباح ہو تو مُباح کاموں کا سبب بنتا ہے۔

(تفسیر ابن عربی، 1/114 ص 141) **آغاز میں احتیاطاً کم سرمایہ لگائیے** ابتداءً

بڑا کاروبار کرنے کی غرض سے بھاری رقم بطور قرض (Loan) نہ لیجئے کہ خدا نخواستہ ناکامی کی صورت میں نقصان بھی بڑا ہو سکتا ہے بلکہ مِلْکِیَّت میں جو مناسب رقم موجود ہو اس سے تجارت شروع کیجئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ بڑے تاجر بن جائیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہجرت کے بعد مدینے کے بازار میں بنیر، گھی اور کھال کا کاروبار کرتے تھے، کچھ ہی عرصے کی جمع پونجی سے شادی کر لی اور رفتہ رفتہ اتنی برکت ہوئی کہ ان کا سامان تجارت سات سو اونٹوں پر آتا تھا۔ (امد الغالب، 3/498 ص 498)

ناماکی پر دل چھوٹانہ کیجئے پہلے سے یہ ذہن بنائیے کہ تجارت میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے۔ فائدے کی صورت میں شکرِ الہی بجالائیے اور نقصان پر دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹنے کے بجائے صبر سے کام لیجئے اور ہمت و لگن سے کوشش جاری رکھئے ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔

جس چیز کی مانگ (Demand) ہو اس کی تجارت کیجئے کاروبار

شروع کرنے سے پہلے مقامی لوگوں کے مالی حالات، موسم اور وقت کو ملحوظ رکھئے۔ موسم سرما میں گرمی کے بلبوسات و مشروبات بیچنا اور صُبح کے وقت ناشتہ کے بجائے باربی کیو (Bar B.Q) لگانا عقل کے خلاف ہے۔ **شرِاکت (Partnership) کیجئے** تجارت کا ارادہ ہے

مگر تَجْرِبَہ (Experience)، زیادہ سرمایہ یا تجارتی معاملات کیلئے وقت نہیں تو کوئی دیا نیتدار شخص تلاش کر کے شرِاکت پر کاروبار شروع کیجئے اور شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دھوکہ دہی، بددیانتی اور حق تلفی سے بچئے، ظرفین کے طے شدہ معاہدوں کو لکھ کر محفوظ رکھئے تاکہ جھگڑے کی تُوْبَت نہ آئے۔

”تجارت“ کسبِ حلال کا بہت ہی نفع بخش (Profitable) ذریعہ، روزِ عمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے اور اچھی زندگی بسر کرنے کا اہم ترین وسیلہ ہے۔ تجارت کے فوائد پانے کیلئے ان اصولوں پر عمل کیجئے ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ کامیابی قدم چومے گی۔

اچھی اچھی نیتیں کیجئے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مقصد اور ”نیت“ کا تعین بنیادی حیثیت رکھتا ہے لہذا تجارت شروع کرنے سے پہلے اہل و عیال کی سہالت، دین کی مالی خدمت، کاروباری معاملات میں دیانت سے کام لینے کی نیتیں کیجئے کہ اس طرح یہ تجارت ثواب کا ذریعہ بن جائے گی۔ **ماہر تاجروں سے مشورہ کیجئے** حدیثِ پاک میں ہے: جو کسی کام کا ارادہ کرے

پھر اُس کے بارے میں کسی مسلمان سے مشورہ کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اُسے دُرُست کام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ (بخاری، 6/152، حدیث: 8333) لہذا تجارت کے اصولوں سے واقف، عقلمند، مخلص اور مذہبی ذہن رکھنے والے کسی تاجر سے مشاورت کیجئے اور ممکن ہو تو اُس کے مشوروں پر عمل کیجئے۔ البتہ نقصان ہونے کی صورت میں مشورہ دینے والے کے بارے میں بدگمانی اور غیبت جیسے کبیرہ گناہوں سے خود کو لازمی بچائیے۔ **تجارت کے ضروری احکام سیکھئے** مفتی امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں:

جب تک خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہ ہوں کہ کون سی بیع (خرید و فروخت) جائز ہے اور کون سی ناجائز، اس وقت تک تجارت نہ کرے۔ (بہار شریعت، 3/478) لہذا حلال کمانے اور حرام سے بچنے کیلئے کاروبار کے ضروری مسائل سیکھئے، دورانِ تجارت بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً دعوتِ اسلامی کے شعبے ”دائرِ اِفَاءِ اہلِ سُنَّت“ سے شرعی راہنمائی لیجئے۔ **جائز کاروبار شروع**

13 مَدَنِي بھولوں کا گِلِستہ

بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ کے انمول فرامین جن میں علم و حکمت کے خزانے چھپے ہوتے ہیں، ثواب کی نیت سے انہیں زیادہ سے زیادہ عام کیجئے۔

(7) ارشادِ سیدنا سبکی بن ابو کثیر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی: نیکیاں یاد رکھنا اور گناہوں کو بھول جانا بہت بڑا دھوکا ہے۔

(حلیۃ الاولیاء، 3/80، رقم: 3244)

(8) ارشادِ سیدنا جہان بن ابو جبکہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ: دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔

(تفسیر قرطبی، الدخان: تحت الآیہ: 54/8، 113)

(9) ارشادِ سیدنا فضیل بن زید رَقَاش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ: اے بھائی! لوگوں کا جہنم ہرگز تمہیں تمہارے نفس کی اصلاح سے غافل نہ کرے کیونکہ پوچھ گچھ تم سے ہوگی نہ کہ لوگوں سے۔

(موسوع ابن ابی الدنیا، الورع، 1/220، رقم: 134)

(10) ارشادِ ندیل بن میسرہ غَفِیْل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی: جو اپنے علم سے صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خوشنودی چاہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنی رضا سے نوازتا اور بندوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔

(حلیۃ الاولیاء، 3/73، رقم: 3213)

(11) ارشادِ سیدنا منصور بن رَافِع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی: رَج و غم نیکیوں میں اضافے کا باعث جبکہ تکبر و بڑائی بُرائیوں میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں۔

(موسوع ابن ابی الدنیا، الصم والحزن، 3/266، رقم: 23)

(12) ارشادِ سیدنا شعیب بن عَجَلان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی: جو شخص موت کو ہر وقت پیشِ نظر رکھتا ہے اسے دنیا کی تنگی و کشادگی کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔

(حلیۃ الاولیاء، 3/153، رقم: 3517)

(13) ارشادِ سیدنا ابو یقوب فَرَقْد سَبِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی: پیٹ والے کے لئے پیٹ کی وجہ سے ہلاکت ہے کہ اگر اسے سیر نہ کرے تو کمزور پڑ جاتا ہے اور اگر خوب سیر کرے تو بوجھل ہو جاتا ہے۔

(موسوع ابن ابی الدنیا، الجوع، 4/117، رقم: 224)

(1) ارشادِ سیدنا سلیمان بن داؤد عَلَیْہِ السَّلَام: جھگڑے سے بچنا! کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ بھائیوں کے درمیان دشمنی کو بھڑکاتا ہے۔ (تاریخ دمشق، 22/286)

(2) ارشادِ سیدنا سلیمان بن داؤد عَلَیْہِ السَّلَام: اے بیٹا! پھنجھوری سے بچنا! کیونکہ یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ (الزهد لاجہ بن حنبل، ص 124، رقم: 467)

(3) ارشادِ سیدنا ابو ذر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ: اِس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شُغور (پتا) بھی نہ ہو۔ (الزهد لابن داؤد، ص 205، رقم: 229)

(4) ارشادِ سیدنا امام زین العابدین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ: (عبادت میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں:) کچھ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت (جہنم کے) خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی سی عبادت ہے۔ کچھ لوگ حصولِ جنت کے لئے کرتے ہیں، یہ تاجروں کی سی عبادت ہے اور کچھ لوگ بطورِ شکر عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ (حلیۃ الاولیاء، 3/158، رقم: 3540)

(5) ارشادِ سیدنا محمد بن علی باقر عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی: جس قدر تکبر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اسی قدر اس کی عقل کم ہو جاتی ہے خواہ تھوڑا ہی یا زیادہ۔

(موسوع ابن ابی الدنیا، التواضع والذل، 3/579، رقم: 226)

(6) ارشادِ سیدنا محمد بن مُشَکِّد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ: بچوں سے زیادہ مذاق نہ کیا کرو! ورنہ ان کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت کم ہو جائے گی۔ (موسوع ابن ابی الدنیا، الصمت، 7/238، رقم: 393)

کامیابی کے نسخے

تیسری اور آخری قسط



نتائج ملیں گے۔ (19) کبھی مایوسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، ایک در بند ہوتا ہے تو رب عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے 100 در گھل جاتے ہیں۔ (20) ماضی گزر چکا، مستقبل ابھی آیا نہیں، لہذا مستقبل کی دنیاوی فکر کو اپنے ذہن پر اتنا سوار نہ کریں کہ زمانہ حال بھی ٹینشن میں گزرے۔ (21) لوگ دولت کمانے کے لئے اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں پھر اُسی رقم کو اپنی صحت پر خرچ کر دیتے ہیں، ایسوں کے ہاتھ کیا آیا؟ دولت کو ہی سب کچھ نہ سمجھئے! اگر دولت تمام غموں کا علاج ہوتی تو کوئی امیر شخص کبھی دکھی نہ ہوتا، سونے کے لئے نیند کی گولیاں نہ کھاتا، جان کی سلامتی کے لئے چوروں، ڈاکوؤں اور بھتہ خوروں سے چھپتا نہ پھرتا۔ (22) اپنے رویے میں چلک رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر پریشانی نہ ہو۔ **فرضی حکایت** ایک سیٹھ اپنی ذاتی کار میں سفر پر تھا کہ ایک دم اُس نے دیکھا کہ ایک ٹرک اُن کی گاڑی کے بالکل سامنے آچکا تھا، قریب تھا کہ ٹکر ہو جاتی مگر سیٹھ نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی کچے پر اتارنے کا حکم دیا جس پر ڈرائیور نے فوراً عمل کیا، لمحے بھر کی تاخیر انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیتی، جب سیٹھ نے ڈرائیور سے وضاحت مانگی تو وہ نادان کہنے لگا کہ ہم صحیح سائیڈ پر تھے، قصور اُس ٹرک والے کا تھا، اس لئے اصولی طور پر میں نے پہلے گاڑی کچے میں نہیں اتاری تھی، اب جہاں دیدہ سیٹھ نے اُسے سمجھایا کہ اگر میں چلک نہ دکھاتا تو تم اپنا اصول بیان کرنے کے لئے زندہ نہ ہوتے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں نیک مقاصد اپنانے کی توفیق دے اور کامیابی نصیب فرمائے۔

(14) کامیابی پانے کے لئے محنت و کوشش بہت ضروری ہے، کیونکہ محنتی کے لئے پہاڑ بھی کنکر اور سُست کے لئے کنکر بھی پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔ محنت سے جی پُرانے والا سونے کو بھی مٹی بنا دیتا ہے جبکہ محنتی شخص مٹی کو سونا بنا لیتا ہے۔ ایک ہی درجے (کلاس) میں پڑھنے والے طلبہ میں سے کچھ اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں جبکہ بعض کو معمولی ملازمت ہی مل پاتی ہے، اس فرق کی ایک وجہ محنت میں فرق ہونا بھی ہے۔ (15) کامیاب ہونے کے لئے مقصد و ہدف کا تعین بہت ضروری ہے ورنہ کوششیں رنگ نہیں لائیں گی، کم سے کم عقل رکھنے والا شخص بھی ایسی ٹرین یا بس میں سوار نہیں ہوتا جس کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ کہاں جائے گی! چنانچہ جو اچھا عالم دین بننا چاہتا ہے تو وہ اُسی راستے پر چلے جو علم کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ (16) میانہ روی اور اعتدال کی راہ بہت ساری پریشانیوں سے بچا کر کامیابی تک پہنچا دیتی ہے، اپنے آخر اجات آمدنی کے مطابق رکھئے! یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلایئے! ورنہ قرض و تنگدستی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ (17) سُن پسند نوکری یا کاروبار کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا دانش مندی نہیں، انسان سُست و کاہل ہو جاتا ہے اُس کی صلاحیتیں بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں، پھر جب پسندیدہ کام ملتا ہے تو اُسے کرنے کی ہمت و طاقت نہیں ہوتی، یوں وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس لئے جو کام ملے اُسے کرنا شروع کر دیجئے۔ (18) جذبات پر قابو پانا سیکھئے! کیونکہ جذبات میں کئے گئے فیصلے اکثر بعد میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، اسلامی اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کریں گے تو اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ اچھے

خربوزہ اور شملہ مرچ



شملہ مرچ (Bell pepper) اور اُس کے فوائد

شملہ مرچ ایک مفید سبزی ہے، ابتدا میں سبز پھر پیلی اور خوب پکنے کی صورت میں سُرخ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کی فیتوں اور دستیابی میں بھی خاصا فرق ہے۔ شملہ مرچ کا آبائی وطن میکسیکو (Mexico) اور چلی (Chile) ہے جہاں اسے تین ہزار سال سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ شملہ مرچ کو آلو، قیمہ، گوشت، دیگر سبزیوں کے ساتھ اور قیمے سے بھر کر بھی پکایا جاتا ہے۔ اسے بطور سلاہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تیکھی نہیں ہوتی۔ شملہ مرچ کے چند فوائد یہ ہیں:

✽ شملہ مرچ وٹامن اے اور سی (Vitamin A & C) کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے ✽ شملہ مرچ آنکھوں میں موتیا اُترنے سے بچاتی ہے ✽ سُرخ رنگ کی شملہ مرچ ہر قسم کے کینسر (Cancer) سے بچانے میں مدد دیتی ہے ✽ شملہ مرچ فائبر (Fibre) سے بھرپور ہوتی ہے ✽ شملہ مرچ وژن کم کرتی ہے ✽ کولیسٹرول (Cholesterol) کی مقدار بھی کنٹرول کرتی ہے ✽ جوڑوں کے دُزد والے افراد خصوصاً کمزور والوں کیلئے نہایت مفید ہے ✽ شملہ مرچ میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو دماغ کے لئے نہایت مفید ہیں، اسی وجہ سے شملہ مرچ ذہنی تناؤ (Depression) دُور کرتی اور ٹینشن (Tension) سے نجات دلاتی ہے ✽ سُرخ شملہ مرچ بلڈ پریشر (B.P.) کے مریضوں کیلئے بھی مفید ہے ✽ شملہ مرچ جلد کی جلائ اور سوجن کے علاج کے لئے بیرونی طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ (انٹرنیٹ کی مختلف ویب سائٹس سے ماخوذ)

نوٹ: تمام دوائیں اپنے طیب (ڈاکٹر) کے مشورے سے ہی استعمال کیجئے۔

خربوزہ (Melon) اور اُس کے فوائد

خربوزہ موسم گرما کا ایک لذیذ اور مفید پھل ہے۔ کدو شریف کی طرح اس کی افزائش بھی زمین پر پیل کی صورت میں ہوتی ہے۔ سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تازہ پھلوں میں خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خربوزہ روٹی، شکر اور بسا اوقات کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ (فیضانِ سنت، ص 305 طحا) خربوزے پر دو مثل (مثالیں) بڑی مشہور ہیں: ”خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر، نقصان خربوزے ہی کا ہے۔ (یعنی کمزور کی ہر طرح شامت ہے)“ اور ”خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ (یعنی صحت کا اثر ہوتا ہے)“ (فیروز اللغات، ص 622) خربوزے کے چند فوائد یہ ہیں:

✽ خربوزہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ✽ قبض اور معدہ کی خشکی کو دُور کرتا ✽ اور دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے ✽ گردوں اور مثانے کے امراض میں مفید ہے ✽ خربوزہ سر کی خشکی (Dandruff) اور خارش کو بھی دُور بھگاتا ہے ✽ جسم کی گانٹھیں گلاتا ہے ✽ خُوب پیشاب لاتا ہے ✽ مثانے کی پتھری سے نجات دلاتا ہے۔ (گھریلو علاج، ص 96) ✽ حاملہ عورت اگر بکثرت خربوزہ کھائے تو اولاد حسین اور صحت مند پیدا ہوگی۔ (اسلامی بہنوں کی نما، ص 235) ✽ خربوزے کے پھلکوں کا سُفوف (Powder) سبزیوں کو جلد گلانے اور آٹے میں خمیر لانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ (جنتی زیور، ص 566 طحا) ✽ خربوزے کے تھوڑے سے بیج چھیل کر روزانہ کھالینے اور اوپر سے پانی پی لینے سے گردے کے دُزد میں راحت ملتی ہے۔ (گھریلو علاج، ص 55) ✽ بعض کھلا کے نزدیک خربوزہ تہار منہ (خالی پیٹ) کھانا نقصان دہ ہے۔

زیر سایہ ہوئی، سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور جلد ہی مَرَّوَجہِ عُلُوم و فُؤُون میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ حصولِ علم کے سفر کے دوران امام علی رضا، امام اعظم ابو حنیفہ، داتا علی جویری اور غوث اعظم رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ بَيْتُ اللہ شریف پکنچ کر جج کرنے اور مدینہ منورہ میں رسول کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے روضہ اقدس پر حاضر ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ (اللہ کے خاص بندے عبدہ، ص 525، 526، 529) **بیعت و خلافت** حضرت لعل شہباز قلندر رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سید ابواسحاق ابراہیم قادری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ الْقَوِی کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے۔ (فیضان

عثمان مروندی، ص 14) **دینی**

خدمات آپ رَحْمَةُ اللہ

تَعَالٰی عَلَیْہِ زبردست

مُبلِّغ، بہترین مدرس

اور بلند پایہ مُصَنِّف

تھے، آپ کی تمام عمر

نیکی کی دعوت عام

کرنے اور علم دین



جن اولیائے کرام کی برکت سے صوبہ سندھ کفر و شرک کے اندھیروں سے پاک ہوا، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب ہوئی اور سندھ کو ”باب الاسلام“ کہا گیا ان ہستیوں میں سے ایک حضرت سید محمد عثمان مروندی کا فطنی حنفی قادری لعل شہباز قلندر رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی ذاتِ گرامی بھی ہے۔ **نام و نسب** آپ کی ولادت باسعادت ساداتِ کرام کے مذہبی گھرانے میں 538ھ بمطابق 1143ء کو ہوئی۔ چہرہ انور سے مشہور پتھر ”لعل“ کی طرح سرخ کر نیں نکلتی محسوس ہوتی تھیں جس کی وجہ سے ”لعل“ کے لقب سے شہرت پائی، ”شہباز“ کا لقب

بارگاہِ امام حسین رَضِیَ

اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے عطا

ہوا جبکہ سلسلہ قلندریہ

کی نسبت سے ”قلندر“

مشہور ہوئے۔

آذربائیجان کے قصبہ

”مروند“ میں پیدا ہوئے

اس لئے آپ رَحْمَةُ اللہ

تَعَالٰی عَلَیْہِ کو مروندی

کہا جاتا ہے۔ (فیضان عثمان مروندی، ص 5، 7، 8، 9، ملخصاً) آپ کے والدِ گرامی حضرت مولانا سید کبیر الدین رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے وقت کے مشہور عالمِ دین اور سنّتوں کے زبردست عامل تھے جبکہ والدہ ماجدہ حاکم مروند کی صاحبزادی ہونے کے باوجود بہت نیک، عبادت گزار اور قناعت و سخاوت جیسی کئی عمدہ صفات کی حامل تھیں۔ والدین کے ان قابلِ رشک اوصاف کا نتیجہ تھا کہ آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی شخصیت میں بچپن ہی سے شوقِ علم اور ذوقِ عبادت جیسے عمدہ خصائل رَچ بس گئے تھے۔ (شان قلندر، ص 262، 268، اللہ کے خاص بندے عبدہ، ص 524 ماخوذاً) **تعلیم و تربیت** آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت والدِ گرامی کے

کی اشاعت میں گزری۔ ایک مدت تک مدرسہ بہاول الدین (مدینۃ الاولیاء ملتان) اور سیہون شریف میں قائم مدرسہ ”رفقۃ الاسلام“ میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی تصانیف ”صرفِ صغیر“ اور ”میزانُ الصرف“ درسی نصاب میں بھی شامل رہیں۔ (اللہ کے خاص بندے عبدہ، ص 522، 531) **وصال و مدفن** آپ رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال 21 شعبان المعظم 673ھ میں ہوا۔ (تذکرہ صوفیائے سندھ، ص 205) آپ کا مزار پُر انوار سیہون شریف (ضلع دادو، باب الاسلام، سندھ) میں آج بھی زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔

علم و حکمت کے 12 مدنی پھول



شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں:

توڑنا اور بھوک مٹانے یا لذت پانے کیلئے منہ میں ڈالنا اور حسب ضرورت کھانا بھی ضروری ہے، اسی طرح مدنی کام فقط چاہنے سے ہی نہیں بلکہ کرنے سے ہوں گے۔

(مدنی مذاکرہ، 4 ذوالحجہ الحرام 1435 بتدریس)

(8) علمی شخصیت (اور) داڑھی و عمامے والے (افراد) کو

زیادہ محتاط ہونا چاہئے کہ یہ ”سفید چادر“ کی مانند ہیں اور سفید چادر پر ”کالا داغ“ زیادہ واضح نظر آتا ہے۔

(مدنی مذاکرہ، 8 ذوالحجہ الحرام 1435)

(9) کاش! بولنے سے پہلے اس طرح تولنے کی عادت

پڑ جائے کہ یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی دینی یا دنیوی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ (منقول، ص 12)

(10) جیسے والدین کو اپنا ”کماؤ پیڑ“ اچھا لگتا ہے ایسے ہی جو

مريد دين کا زیادہ کام کرتا ہو اور دين پر عمل (بھی) کرتا ہو وہ پير کو زیادہ اچھا لگے گا۔ (مدنی مذاکرہ، 18 ذوالقعدة الحرام 1435)

(11) سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا، اِنْ شَاءَ اللہ

عَزَّوَجَلَّ ہم اس شیطانی کام سے بچیں گے اور جھوٹ کے خلاف جنگ! جاری رکھیں گے۔ (مدنی مذاکرہ، 4 ذوالحجہ الحرام 1435)

(12) ہمیں موت کو یاد کر کے بے چینی نہیں ہوتی یہ ہماری

عُظمت کا نتیجہ ہے، عُظمت میں ڈالنے والے کاموں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہئے۔ (مدنی مذاکرہ، 10 ذوالحجہ الحرام 1435)

(1) اگر ہر اسلامی بھائی روزانہ کسی نہ کسی ایک بے نمازی پر انفرادی کوشش کر کے اُسے نمازی بنانے میں کامیاب ہو جائے تو اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہماری مساجد بھر جائیں۔

(18 ذوالحجہ الحرام 1436 کی تحریر سے لیا گیا)

(2) ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت بڑی

سعادت کی بات ہے۔ (مدنی مذاکرہ، 20 شوال المکرم 1435)

(3) ”دعوت اسلامی“ ایک پُر امن تحریک ہے، اس کی جنگ شیطان سے ہے اور شیطان کے خلاف جنگ! جاری رہے گی۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ (مدنی مذاکرہ، 30 ذوالقعدة الحرام 1435)

(4) آپ کا کام منوانا نہیں پہنچانا ہے نیکی کی دعوت پہنچا کر اپنا ثواب کھرا کرتے رہیں۔ (18 ذوالحجہ الحرام 1436 کی تحریر سے لیا گیا)

(5) والدین اپنی اولاد پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم اپنے فُلاں بیٹے یا بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ورنہ دیگر بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے اور یہ اُن کیلئے باعثِ ہلاکت ہو سکتا ہے۔

(مدنی مذاکرہ، 18 ذوالقعدة الحرام 1435 بتدریس)

(6) صبر کا ذہن بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے

سے بڑھ کر مصیبت زدہ کے بارے میں غور کیا جائے اس طرح اپنی مصیبت بلکی محسوس ہوگی اور (اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ) صبر کرنا آسان ہو گا۔ (خود کشی کا علاج، ص 34)

(7) جس طرح پھل دار درخت کے نیچے کھڑے ہو کر

صرف پھل کھانے کا ارادہ کرنا کافی نہیں بلکہ درخت سے پھل

اُم المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

محمد بلال سعید عطاری مدنی

شوقِ علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علمِ دین سے بے حد شغف تھا یہی وجہ تھی کہ آپ کو جو بات معلوم نہ ہوتی بلا جھجک پوچھ لیا کرتیں، ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا: مجھے امید ہے ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ نہیں فرمایا: ﴿وَأَنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو) (پ: 16، مریم: 71) تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے:

﴿ثُمَّ نَبْئِي النَّبِيِّ اتَّقُوا الَّذِينَ الظَّالِمِينَ فَنِيهَا جَنَّتُهَا﴾

(ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم ڈروالوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے) (پ: 16، مریم: 72) (مسند احمد، 10/163) **شانِ فتاوت** آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علمِ حدیث و فقہ میں مہارت رکھتی تھیں یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے متعلق شرعی مسائل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب رجوع فرمایا۔ (درمنثور، 1/653)

سفرِ آخرت وصال سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مال صدقہ کر دیا اور جائیداد وقف کر دینے کی وصیت فرمائی۔ (اسد الغابہ، 7/75) ماہ شعبان المعظم 45 ہجری کو مدینہ منورہ میں روزے کی حالت میں 63 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں دیگر ازواجِ مطہرات کے پہلو میں کی گئی۔ (سبل الہدیٰ والرشاد، 11/186) (سیرت مصطفیٰ، ص 664)

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے رحمت، چشمہِ علم و حکمت اور فیضِ صحبت سے حصہ پانے والی خوش نصیبوں میں ایک حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں جو کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔

نام و نسب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعلانِ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، آپ کا نام حفصہ اور والدہ کا نام زینب بنتِ مطلقون تھا۔ آپ اپنے والد محترم کی ترغیب پر نورِ ایمان سے مشرف ہوئیں اور اپنے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ (طبقات کبریٰ، 8/65)

اوصاف و کردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت بلند ہمت، بکثرت روزے رکھنے والی اور رات عبادت میں گزارنے والی عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں۔ (سیر اعلام النبلاء، 3/492) ایک بار جبریل امین علیہ السلام بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کی عبادت و ریاضت کا یوں ذکر فرمایا: ”یہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، رات کو بہت زیادہ قیام کرنے والی اور جنت میں آپ کی اہلیہ ہیں۔“ (الاصابہ، 8/86) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کثرت سے تلاوتِ قرآن کرتی تھیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست جیسی عمدہ صفات میں اپنے والد محترم کا مزاج پایا تھا۔ (سیرت مصطفیٰ، ص 662)

حضور سے نکاح: حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں آپ سے نکاح فرمایا۔ (سبل الہدیٰ والرشاد، 11/184 مستطاب)



محمد عدنان چشتی عطاری مدنی

سلاک عورت کیا دیا؟

اسلام نے بیٹی کو کیا دیا؟

جب بیٹی ملنے آتی تو انبیاء کے سردار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نفیس تعلیم کے لئے کھڑے ہو جاتے، ہاتھ جو متے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔⁽⁸⁾ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے بیٹی کو نہ صرف جینے کا حق فراہم کیا بلکہ عزت و احترام عطا فرما کر اسے وراثت کا یوں حقدار ٹھہرایا: (1) اگر کوئی بیٹا موجود نہ ہو اور بیٹی ایک ہو تو آدھا (2) اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں دو تہائی (یعنی 2/3) مال ملے گا۔⁽⁹⁾ یہ اسلام ہی ہے جو بیٹی کی خوش دلی سے پرورش کرنے اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہ دینے والے کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دیتا ہے۔⁽¹⁰⁾ اسلام ہی نے تین بیٹیوں کا خیال رکھنے، اچھی رہائش دینے اور ان کی کفالت کرنے والے پر جنت واجب ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے بلکہ یہی نوید دو اور ایک بیٹی پر بھی عطا فرمائی۔⁽¹¹⁾ بیٹیوں کی اچھی پرورش کے صلے میں جنت میں رسولوں کے سردار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رفاقت کی خوشخبری دینے والا مذہب صرف اسلام ہی ہے۔⁽¹²⁾ بیٹیوں کو خوش رکھنے والے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا و خوشی کی نوید اسلام ہی نے دی۔⁽¹³⁾

اسلام اور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس قدر احسانات کے باوجود کیا کوئی بیٹی اپنے محسن اور شفیع نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تعلیمات سے روگردانی کرنے کی ناولی کر سکتی ہے! نہیں ہرگز نہیں کیونکہ نبی رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بیٹی کو وہ عزت و مقام و مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر ساری دنیا کی بیٹیاں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکر ادا کرتی رہیں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتیں۔

اسلام سے پہلے بیٹی کو منحوس، بوجھ اور ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کا سن کر غصے کے مارے باپ کا منہ سیاہ ہو جاتا۔⁽¹⁾ کوئی اس ننھی جان کو قتل کر کے کتے کو کھلا دیتا۔⁽²⁾ تو کوئی زندہ درگور (دفن) کر دیتا، جیسا کہ ایک شخص نے نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے اپنی زندہ بیٹی کو کنویں میں پھینکنے کا اقرار کیا۔⁽³⁾ ایک نے زمانہ جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے پر ندامت کا اظہار کیا۔⁽⁴⁾ بیٹی پر کیا جانے والا یہ ظلم اس قدر عام تھا کہ جب ولادت کا وقت قریب ہوتا تو گڑھا کھود کر عورت کو اس کے پاس بٹھا دیا جاتا اگر نومولود لڑکی ہوتی تو اُسی گڑھے میں دفن کر دی جاتی اور اگر لڑکا ہوتا تو اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ اسی زمانے کے ایک شاعر نے یوں بھی کہا:

سَمَّيْتُهَا إِذْ وُلِدَتْ تَبْهَتْ
یعنی میں نے اس نومولود بچی کا نام ”تَبْهَتْ“ (یعنی مر جائے گی) رکھا اور قبر (کا گڑھا) میرا دام ہے جس نے اس کا کلیل بن کر اسے خاموش کر دیا۔⁽⁵⁾
اگر کوئی بیٹی زندہ چھوڑ بھی دی جاتی تو اُسے بالوں یا اون کا لباس پہناتے اور اس سے جنگل میں بکریاں اور اونٹ چرواتے۔⁽⁶⁾

زمانہ جاہلیت میں بیٹی پر ڈھائے جانے والے مظالم اور اسلام کے احسانات سے لاعلم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو دیانی کیا ہے؟ (مَعَاذَ اللہ) ایسوں کے لئے عرض ہے کہ اسلام نے بیٹی کو وہ عظمت والا مقام دیا کہ کسی غیر مسلم معاشرے میں جس کا تصور بھی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بیٹیوں کا ذکر بیٹوں سے پہلے فرمایا۔⁽⁷⁾ اسلام میں بیٹی کی عظمت کا کیا کہنا!

(1) پ 14، النحل: 58؛ ماخوذاً (2) تفسیر طبری: 12/464، التکویر: تحت الآیہ: 8؛ (3) دارمی: 1/14، حدیث: 2؛ طحاوی: 231/1، ج 2، حدیث: 4687؛ (5) تفسیر قرطبی: 10/164، التکویر: تحت الآیہ: 6؛ (6) الملباب فی علوم الکتاب، 183/20، التکویر: تحت الآیہ: 7؛ (7) پ 25، الشری: 49؛ (8) ابوداؤد: 4/454، حدیث: 5217؛ (9) پ 4، النساء: 11؛ ماخوذاً (10) مستدرک، 5/248، حدیث: 7428؛ (11) معجم اوسط: 4/347، حدیث: 6199؛ طحاوی (12) مسند احمد: 4/296، حدیث: 12500؛ طحاوی (13) فردوس الاخبار: 2/263، حدیث: 5830؛ طحاوی

مفتی ابو الصالح محمد قاسم عطاری

دونوں طریقوں میں انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے بیرونی حصے اور کلمے کی انگلیوں سے اندرونی حصے کا مسح کرے۔
لہذا اگر عورت سر کے مسح میں دوسرے طریقے کو اپنانے تو مشکل سے بچنے کے ساتھ ساتھ پورے سر کا مسح کرنے والی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سرخی (Lipstick) لگانا کیسا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا عورت کو سرخی (Lipstick) لگانا جائز ہے، اور اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟
مسائل: محمد سعید (ملیر کینٹ، باب المدینہ کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَاقِبٍ

اَللّٰهُمَّ ہِدْ اٰیۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر سرخی (Lipstick) کے اجزاء میں کوئی حرام اور ناپاک چیز شامل نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ البتہ وضو و غسل کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر سرخی ایسی جرم دار (یعنی تہہ والی) ہو کہ پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہو تو اس کے لگے ہونے کی صورت میں وضو و غسل درست نہیں ہوں گے اور وضو و غسل کے درست ہونے کے لئے اس جرم کو ختم کرنا ہوگا، لہذا اگر ایسے وضو یا غسل سے نماز ادا کی تو وہ نماز درست نہ ہوئی، اسے دوبارہ پڑھنا لازم اور اگر ایسی جرم دار نہیں ہے تو اس کے لگے ہونے کی صورت میں وضو و غسل دونوں درست ہو جائیں گے، اور ان سے پڑھی ہوئی نماز بھی درست ہوگی بشرطیکہ کوئی اور مُفسِد یا مکروہ نماز نہ پایا گیا ہو۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کتاب الفتاویٰ
اہل سنت
کے فتاویٰ

اسلامی بہنیں سر کا مسح کیسے کریں؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ وضو میں عورتیں سر کا مسح کس طرح کریں گی، کیا مردوں کی طرح ان کے لئے بھی گردن سے واپس پیشانی تک ہتھیلیوں سے مسح کرنا ضروری ہے، کیونکہ بال بڑے ہونے کی وجہ سے اس میں مشکل پیش آتی ہے، اگر نہیں کریں گی تو کیا وضو ہو جائے گا؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیں۔
مسائل: بنت اسد عطاری (لالہ زار، راولپنڈی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَاقِبٍ

اَللّٰهُمَّ ہِدْ اٰیۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

مرد و عورت دونوں کے لئے وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اگر کسی نے پورے سر کا مسح نہ کیا بلکہ اس سے کم کیا تو وضو ہو جائے گا لیکن بلا غدر اسکی عادت بنالینے سے وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ پورے سر کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے اور کتب فقہ میں پورے سر کا مسح کرنے کے دو طریقے منقول ہیں: (1) دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلیاں چھو کر بقیہ تین تین انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی پر رکھے، پھر انگوٹھی کی طرف اس طرح کھینچ کر لائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر فقط ہتھیلیوں سے سر کی دونوں جانبوں کا مسح کرتا ہو پیشانی تک لے آئے (2) انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کے علاوہ دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں اور ہتھیلیاں، پیشانی سے گدی کی طرف اس طرح کھینچ کر لائے کہ پورے سر کا مسح ہو جائے۔ پھر بیان کردہ

اسلامی بھائیوں سے صوتی پیغامات اور امیر اہل سنت کے صوتی جوابات

مدنی قافلوں کے مسافر طلبائے کرام کی حوصلہ افزائی

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ (کراچی) سے منٹھیل جامعۃ البدینہ کے 39 طلبائے کرام اور 2 علاقے کے اسلامی بھائیوں پر مشتمل مدنی قافلے کی بلوچستان کے جونی باندری اور دیگر علاقوں میں سفر پر امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ نے صوتی پیغام کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی:

نَحْمَدُکَ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
سُک مدینہ محمد الیاس عطّار قادری رَضَوِی عَفِی عَنْہُ کی جانب سے مدنی قافلے کے مسافرو! اور میرے مدنی بیٹو!
اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ!

مرحبا! (دکن شوری) حاجی امین عطاری سَلَمَہُ اَنْبَارِی نے آپ حضرات کی موبائل فون کے ذریعے مختلف مدنی کاموں کے مناظر کی تصویریں اور تحریری صورت میں کہ عبد الرؤف عطاری کے حوالے سے آپ کے مدنی قافلے کی تفصیلات پیش کیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر بخیر فرمائے اور سارے مدنی قافلے کے مسافروں کو مدینے کے قافلے میں سفر کی سعادت بخشے، آپ کی زبانوں میں اثر عطا فرمائے، آپ جہاں جہاں جائیں سنتوں کا سبزہ اگائیں، ہر طرف سنتوں کی بہار آجائے اور اللہ تعالیٰ میرے تمام مدنی بیٹوں کو جامعۃ البدینہ میں جو پڑھتے یا پڑھاتے ہیں سب کو ہر مہینے کم از کم تین (3) دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق مَرْحَمَت فرمائے، امین۔ میرے لئے بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے گا اور ہمیشہ اسی طرح مدنی قافلوں میں خوب سفر کرتے رہئے گا۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

مدنی کاموں کی بہاریں اور امیر اہل سنت کی دعائیں

ناظم جدول جامعۃ البدینہ قادری کا بینہ سکرند (باب الاسلام،

سندھ، پاکستان) شبیر احمد عطاری مدنی نے صوتی پیغام (Audio message) کے ذریعے جامعۃ البدینہ کے مدنی کاموں کی کارکردگی پیش کی:

اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! ہمارے جامعۃ البدینہ میں مدنی کاموں کی بہاریں ہیں، ہمارے طلبہ دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع، مدنی مذاکرے اور مدنی دورے میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اسی طرح فجر کے بعد مدنی حلقے میں شرکت اور اس کے بعد قرآنِ پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ صلوٰۃ الثَّوْبَہ، اُشْرَاق و چاشت اور سنتِ قُبْلَیہ کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے طالب علم عشا کی نماز کے بعد تقریباً 60 سے 80 چوک درس دیتے ہیں اور ان میں جو نمایاں ہیں ان کے نام یہ ہیں: طارق رضا، عبدالقیوم، عبدالرحمن، عمران، ناظر حسین اور اشفاق۔ یہ طالب علم پابندی کے ساتھ روزانہ 7 سے 18 چوک درس دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے 18 سے 26 طلبہ ہر پیر شریف کو پابندی سے روزہ رکھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان سب کیلئے استقامت کی دعا فرمادیجئے۔

امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ نے صوتی پیغام (Audio message) کے ذریعے یوں حوصلہ افزائی فرمائی:

نَحْمَدُکَ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
سُک مدینہ محمد الیاس عطّار قادری رَضَوِی عَفِی عَنْہُ کی جانب سے بیٹھے بیٹھے مدنی بیٹے شبیر احمد عطاری ناظم جدول اور طلبائے کرام جامعۃ البدینہ قادری کا بینہ سکرند، اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ! مَا شَاءَ اللّٰہ! آپ کی کارکردگیاں مرحبا! اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور بے حساب مغفرت سے مُشْرِف فرمائے۔ خوب مدنی کاموں کی دھوئیں مچانے کے ساتھ پڑھائی پر بھی توجہ رکھیں، نیکیاں بھی کرتے رہیں اور ماہِ رجب کے روزے بھی رکھتے رہیں، مَا شَاءَ اللّٰہ! آپ نے روزانہ چوک درس کی حیرت انگیز تعداد (کی کارکردگی) دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا مُلْتَمِی ہوں، آپ کے تمام اساتذہ کرام کو میرا سلام۔ صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد



امامِ اختر قادری عطاری

انقلابی شخصیات کے کارنامے

حضرت سیدنا امامِ اعظم ابو حنیفہ کے فقہی کارنامے

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ

اجتہاد پر فائز تھے۔ (جامع المسند للبخاری، 33/1) اپنی رائے سے آپ کوئی بھی مسئلہ نہ لکھواتے، نہ ہی کسی کو اپنی انفرادی رائے کا پابند کرتے بلکہ خوب غور و فکر اور بحث و مباحث کے بعد جب آخری رائے قائم ہو جاتی تو اسے دُرُج کر دیتے اور اگر مجلسِ افتا کا کوئی خاص رکن موجود نہ ہوتا تو حتیٰ رائے کو اس کے آنے تک مؤثوق فرما دیتے۔ (تاریخ بغداد، 308/12) حتیٰ کہ اگر کسی کا مجلس کے عمومی موقف سے اتفاق نہ ہوتا تو اس رائے کو الگ طور پر اسکے نام کے ساتھ درج کر لیا جاتا۔ امامِ اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے اصحاب حدیث وفقہ اور لغت و تصوف کے کیسے ماہر تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے۔ **حکایت** مشہور محدث امام و کعب بن جراح کے سامنے کسی نے کہا: امامِ اعظم نے خطا کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: امامِ اعظم سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام زُفر جیسے قیاس و اجتہاد کے ماہرین تھے، یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، حبان اور منذر جیسے حافظین حدیث تھے، لغت و عربیت کے ماہرین میں سے قاسم (یعنی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود) اور داؤد طائی و فضیل بن عیاض جیسی زہد و تقویٰ کی پیکر عظیم ہستیاں موجود تھیں۔ لہذا جسکے زُفّاء اور ہم نشین ایسے ہوں وہ غلطی نہیں کر سکتا، اگر کرے تو یہ لوگ اُسے رجوع کروادیں گے۔ (تاریخ بغداد، 250/14) آپ نے سب سے پہلے دلائلِ اَرَبَہ کا تعین کیا اور زمانہ تابعین میں اجتہاد و فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ (جامع المسند للبخاری، 27/1) کتاب الفرائض اور کتاب الشرط کو وضع فرمایا۔ (ایضاً، ص 34) علم احکام مُستنبط فرمایا اور اجتہاد کے اصول و ضوابط کی بنیاد رکھی۔ (ایضاً، ص 35)

دوسری صدی ہجری تک اسلامی حکومت بابِ الاسلام سندھ سے اُندلس تک اور شمالی افریقہ سے ایشیائے کوچک تک پھیل چکی تھی، علمِ دین سے وابستہ رہنے اور مسائل و احکامات سیکھنے کا شوق لا تعداد مسلمانوں کو دور دراز علاقوں سے کھینچ کر علمی مراکز مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور بصرہ کی فضاؤں میں لے آتا تھا۔ علمی مرکز کوفہ سے امامِ اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کا ایسا فیض جاری ہوا کہ ہر دور کے مسلمان اس سے سیراب ہوتے رہے اور ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ تاقیامت ہوتے رہیں گے۔

امامِ اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بے پناہ فرست و ذکاوت سے نوازا تھا، بلاشبہ آپ علمِ نبوت کے وارث تھے، (تبیین الحینیہ، ص 32) آپ مشکل سے مشکل مسئلے کو اتنی آسانی سے حل فرماتے کہ بڑے بڑے علما بھی حیران رہ جاتے اور آپ کی ذہانت اور حاضر جوابی کا اعتراف کرتے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کس قدر عقلمند تھے اس کا اندازہ امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے اسی فرمان سے لگالیں: عورتوں نے امامِ اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ عقلمند پیدا نہیں کیا۔ (الخیرات الحسان، ص 62)

یہاں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے چند انقلابی کارنامے پیش کئے جاتے ہیں: **الخیرات الحسان** میں ہے: امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے علمِ فقہ مدوّن کیا اور اسے أبواب اور کُتُب کی ترتیب پر مُرتَّب کیا۔ امام مالک نے اپنی کتاب مُوطا میں امامِ اعظم کی اسی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے۔ (الخیرات الحسان، ص 43) آپ نے مسلمانوں کو پیش آمدہ اور مُکَنّہ مسائل کے حل کے لئے ایک مجلس قائم فرمائی جس کے اَرَاکین کی تعداد ایک روایت کے مطابق ایک ہزار علما پر مشتمل تھی جن میں 40 افراد مرتبہ



شخصیات کی مدنی خبریں

بروز جمعرات جامعۃ المدینہ فیضانِ عطار نیپال گنج (نیپال) میں محقق مسائل جدیدہ سراجُ الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین رَضَوی اور خَیْرُ الْاَذْکِیاء حضرت علامہ مولانا محمد احمد مصباحی مَدَّ ظِلُّہُمَا (الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہند) کی تشریف آوری ہوئی۔ دونوں حضرات نے اساتذہ و طلباء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ مولانا محمد احمد مصباحی مَدَّ ظِلُّہُ النُّعْمٰی نے دعوتِ اسلامی کی مجلس ”الْبَدِیْنَةُ الْعِلْبِیَہ“ کی تصنیفی خدمات خصوصاً دُرسِ کُتُب (عالم کورس کے اصاب میں شامل کتابوں) کے حوالے سے کام کو خوب سراہا اور دُعا فرمائی۔

اس کے علاوہ گزشتہ مہینے حضرت مولانا مفتی ابراہیم قادری (مہتمم جامعہ غوثیہ رضویہ، سکھر) مدنی مرکز فیضانِ مدینہ (مدینۃ الاولیاء ملتان) شہزادے حضرت مولانا حمید الحق برکاتی (ہند) عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ (باب المدینہ کراچی) حضرت مولانا نجابت رضوی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ (شکر گڑھ، پنجاب) حضرت مولانا خالد حسین مدنی مرکز فیضانِ مدینہ (اسٹیج فورڈ UK) حضرت مولانا پیر شمس العارفین صدیقی (آستانہ عالیہ نیریاں شریف، کشمیر) جامعۃ المدینہ (پوناساتنی، ضلع جہلم، کشمیر) حضرت سائیں پیر محمد ایوب جان سرہندی (سارو شریف، عمر کوٹ) جامعۃ المدینہ (شہداد پور، باب الاسلام سندھ) تشریف لائے۔ ان حضرات نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے دعوتِ اسلامی کی کاوشوں کی تحسین فرمائی

اور دُعاؤں سے نوازا۔ **ہفتہ وار اجتماعات میں طلبائے کرام کی شرکت** مختلف مقامات پر دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں گزشتہ مہینے 135 مدارس و جامعات اہل سُنّت کے تقریباً 1229 طلبائے کرام نے شرکت فرمائی۔ **شخصیات سے ملاقاتیں** دعوتِ اسلامی کے مبلغین مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق شخصیات سے ملاقات کر کے دعوتِ

علماء و مشائخِ اہل سنت کی خدمات میں حاضری اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ دنیا بھر میں دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں میں دن گیارہویں، رات بارہویں ترقی کا سلسلہ جاری ہے۔ دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ اس میں علماء و مشائخِ اہل سُنّت رَحْمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کی شفقتوں اور عنایتوں کا بھی بہت عمل دُخُل ہے۔ دعوتِ اسلامی کی مجلس رابطہ بالعلماء و المشائخ کے ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائی و قفاؤ علماء و مشائخِ اہل سُنّت کی خدمات میں حاضر ہو کر دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کرتے اور مکتبہ المدینہ کی مطبوعات نذر کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ مہینے تقریباً ایک ہزار تیس (1030) سے زائد علماء و مشائخ اور ائمہ کرام کی خدمات میں حاضری ہوئی جن میں سے کچھ حضرات کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں: حضرت مولانا پیر میاں عبدالحق قادری (سجادہ نشین درگاہ عالیہ قادریہ بھڑوڈی شریف، ڈھیری) حضرت مولانا شبیر القادری (مہتمم جامعہ قادریہ اسلامیہ کورگی، باب المدینہ کراچی) حضرت مولانا مفتی عبد العظیم قادری ضیائی (مہتمم دارالعلوم قادریہ سبانیہ، باب المدینہ کراچی) حضرت مولانا مفتی محمد جان نعیمی (مہتمم جامعہ محمدیہ نعیمیہ ملیر، باب المدینہ کراچی) حضرت مولانا ابو الطاہر شفیق احمد قادری (مہتمم مدرسہ غوثیہ جیلانیہ، شکار پور) حضرت مولانا پیر سید قیاض حسین شاہ بخاری (مہتمم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، سبٹی) حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالناصر لطیف (مہتمم و مدرس جامعہ ضیاء العلوم ڈھیر و بابا گڑھی کپورہ، مردان) استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ابو الفضل فضل سبحان قادری (مہتمم و مدرس جامعہ قادریہ، مردان) حضرت مولانا ڈاکٹر صدیق علی چشتی (مہتمم و مدرس جامعہ غوثیہ معینیہ، پشاور) حضرت مولانا مفتی نظام الدین سرکانی (الجامعۃ اللامانیہ، پشاور) حضرت پیر شمس الامین قادری ماکی شریف (نوشہرہ) حضرت مولانا غلام مرتضیٰ عطائی (سر دارآباد فیصل آباد) وغیرہ۔ **شخصیات کی تشریف آوری** یکم رجب المرجب 1438ء بمطابق 30 مارچ 2017ء

آپ کے سناٹا اور سوالات

”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ کے بارے میں قارئین کے تاثرات و تجاویز اور سوالات موصول ہونے جن میں سے منتخب تاثرات کے اقتباسات اور سوالات کے جوابات پیش کئے جا رہے ہیں۔

علمائے کرام اور دیگر شخصیات کے تاثرات (اقتباسات)

(1) مولانا محمد فیاض احمد سعیدی رضوی (دارالافتاء الجامعة السعیدہ گلزار مدینہ، علی پور، مظفر گڑھ): ماہنامہ فیضانِ مدینہ موصول ہوا جس کے مضامین کا مطالعہ باعث تسکین خاطر ہوا۔
(2) استاذ العلماء مولانا محمد رمضان ضیاء الباروی (ناظم تعلیمات، جامعۃ الاسلامیہ خیر المعاد، مدینۃ الاولیاء، ملتان، پنجاب): ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ کی اشاعت پر آپ اور جملہ اراکین (اسلامی بھائیوں) کو مبارک ہو۔ (3) مولانا ابوبلال محمد سیف علی سیالوی (ناظم اعلیٰ جامعہ کنز الایمان ہر سہ، شیخ، چمن عطار، چنیوٹ، پنجاب): ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ کا شمار باصرہ نواز ہوا، بہت اچھا اقدام ہے، مَا شَاءَ اللہ رسالہ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ علمی طور پر بڑا مفید ہے، مضامین کے عنوانات بڑے اچھوتے، حوالہ جات بڑے مفصل۔ تعزیت و عیادت والا کالم بھی بہت خوب ہے روشن مستقبل بڑا ضروری کالم ہے یہ ضرور جاری رکھا جائے۔ ماحولیات پر بھی دو تین مقالے شامل اشاعت ہیں جن کی قدم

بقدم لمحہ بہ لمحہ ضرورت ہے۔ (4) مفتی محمد حیات باروی (جامعہ عثمانیہ غوثیہ رضویہ، شورکوٹ ضلع جھنگ): ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ مکمل پڑھا، اس سے قبل کئی رسالے اور ماہنامے پڑھے اور دیکھے لیکن اس جیسا کسی کو نہیں پایا۔ (5) قاری الطاف حسین سلطانی (مہتمم جامعہ سراج و جامعہ صدیقیہ للبنات کرم پور، وہاڑی): ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ موصول ہوا، پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ تمام مضامین ایک سے بڑھ کر ایک سبق آموز اور زندگی بدل دینے والے ہیں۔ (6) خواجہ محمد اعجاز اشرف (پنڈ داد ن خان، ضلع جہلم): ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ میں شامل مضامین نہایت عمدہ، پرمغز اور فکر انگیز ہیں، جبکہ ڈیزائننگ، طباعت اور اسلوب ترتیب شاندار اور معیاری ہے ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ کے اس شمارہ کو عالم اسلام سے شائع ہونے والے جرائد کے مقابلے میں فخر سے رکھا جاسکتا ہے۔ (7) نیاز احمد مالیک (U.K.): آپ کے موقر جریدے کے شمارہ نمبر 2 کی زیارت سے مشرف ہوا۔ واہ!

خوب، سُبْحَانَ اللہ، مَا شَاءَ اللہ، برادر زادہ محمد اجمل مالیک کی وساطت اس کے دیدار سے دل مسرور ہوا۔ واقعی بہت زبردست کام ہو رہا ہے۔ (8) مرزا محمد اطہر بیگ (جنرل سیکرٹری ڈسٹری بیوٹر ساگھڑ سندھ): ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔

اسلامی بھائیوں کے تاثرات

(9) مبارک کے مستحق دعوتِ اسلامی کے امیر اور نگران شوریٰ اور ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ کی مجلس جس نے ایسا شمارہ شائع کیا۔ (حبیب احمد عطاری، مسلم آباد، باب المدینہ کراچی)
(10) ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ بہت زبردست اور معلومات سے بھرپور ہے۔ اس کے سلسلے ”نوجوانوں کے مسائل“ ”اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل“ اور ”امیرِ اہل سنت کی بعض مصروفیات“ بہت پسند آئے۔
(حافظ توقیر الحسن عطاری، شیخوپورہ، پنجاب)

اسلامی بہنوں کے تاثرات (اقتباسات)

(11) ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ میں موجود مختلف موضوعات ہر طبقے کے افراد کیلئے دلچسپی کا باعث ہیں۔ پہلی ہی نشست میں مکمل پڑھ لیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ۔ (اُمّ رضا عطاریہ مرکز الاولیاء، لاہور)
(12) ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ایسے جیسے کوزے میں سمندر۔ لوگوں کو دعوتِ اسلامی سے وابستہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے (اُمّ بیج عطاریہ باب المدینہ کراچی)
(13) ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ دعوتِ اسلامی کی بہت اچھی کاوش ہے مدنی مذاکرہ کی جھلک بھی بہت زبردست ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ دعوتِ اسلامی کو مزید برکتیں اور عروج عطا فرمائے۔ آمین (اُمّ عمر رضا عطاریہ) (14) دعوتِ اسلامی نے ایک اور قدم اٹھایا ہے۔ پیپر میڈیا میں یہ بھی اُمّت کا بہترین مصلح ثابت ہو گا۔ بالخصوص جو پبلک پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں ان کے لئے بہت معلوماتی ہو گا۔
(بنت نور محمد عطاریہ، کنڈی ضلع عمرکوٹ باب الاسلام، سندھ)

آپ کے سوالات اور ان کے جوابات

مفتی ابوالحسن فضیل رضا عطاری

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس بارے میں کہ رمضان المبارک موسم گرما میں آرہا ہے، کیا سالانہ امتحانات کی وجہ سے طلباء کا رمضان کے فرض روزے قضا کرنا جائز ہے؟ نیز جو والدین بچوں کے اس فعل سے راضی ہوں یا خود روزے چھڑوائیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

سائلہ: بنت اکبر عطاریہ (پشاور)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدْ اِیْمَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ہر عاقل و بالغ مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے، بلا عذر شرعی اس کا چھوڑنا گناہ ہے اور سالانہ امتحانات یا گرمی شرعاً فرض روزہ چھوڑنے کا قابل قبول عذر نہیں ہیں لہذا بالغ طلباء تو بیان کردہ اعذار کی بنا پر فرض روزہ چھوڑنے پر گنہگار ہوں گے ہی ان کے والدین بھی اگر بلا عذر شرعی روزہ چھڑوائیں گے یا چھوڑنے پر باوجود قدرت پوچھ گچھ نہ کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔

طالب علم کے نابالغ ہونے کی صورت میں اگرچہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے اور بے عذر چھوڑے بھی تو گنہگار نہ ہوگا لیکن جب سات سال کے بچے کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو والدین پر لازم ہے کہ اسے روزہ کا حکم دیں اور گیارہویں سال کے بعد والدین پر واجب ہے کہ روزہ چھوڑنے پر بچے کو سزا دیں لہذا سات سال یا اس سے بڑے نابالغ بچے کو والدین اسی وقت روزہ چھڑوا سکتے ہیں جب کہ روزہ کی وجہ سے اسے ضرر کا اندیشہ ہو ورنہ بلا عذر شرعی چھڑوائیں گے یا اس کے چھوڑنے پر خاموش رہیں گے تو واجب ترک کرنے کی بنا پر گنہگار ہوں گے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس بارے میں کہ سنا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے رحمت اور برکت بھر جاتی ہے اور اگر ہاتھ پھیلا دیئے تو رحمت اور برکت نہیں آتی، کیا یہ درست ہے نیز دعا کا صحیح طریقہ بتادیں؟ اگر دعا کے دوران

ہاتھوں پر کپڑا ہو تو درست ہے؟ سائل: بنت محمد منشا، (شیخوپورہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدْ اِیْمَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
دعا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھنا افضل ہے اگرچہ تھوڑا ہی فاصلہ ہو، لیکن اگر کوئی دونوں ہاتھوں کو ملا کر دعا کرے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ البتہ دعائیں دونوں ہاتھوں کو ملا کر یا پھیلا کر رکھنے کے حوالہ سے آپ نے جو کچھ سناس کا ثبوت نہیں ایسا کہنا درست نہیں ہے اور دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ کپڑے وغیرہ سے چھپے ہوئے نہ ہوں۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ ہاتھ ملا کر دعا چاہئے یا علیحدہ علیحدہ کرے؟ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو۔“ (فتاویٰ رضویہ، 328/6) فضائل دعا میں رَئِیْسُ الْمُسْتَشْکِیْنِ مولانا مفتی علی خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی دعا کے آداب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ہاتھ کھلے رکھے، کپڑے وغیرہ سے پوشیدہ نہ ہوں۔“

(فضائل دعا، ص 76 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

بقیہ شخصیات کی مدنی خبریں

اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف اور نیکی کی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ مہینے جن شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ رہا ان میں سے منتخب نام درج ذیل ہیں: علامہ شبیر بلوچ (ڈی ایس پی، ڈیرہ اللہ یار، بلوچستان) ✨ ظہور بابر آفریدی (ایس ایس پی آفیسر، نصیر آباد، بلوچستان) ✨ شاہد منیر مینگل (کوئٹہ، بلوچستان) ✨ محمد ایوب (ریڈنگ، UK) کے میز ✨ عَصَمَتُ اللّٰہ نیازی (مالک نجی بس سروس، مرکز اولیاء، لاہور) ✨ راجہ جاوید آشراف (سیاسی شخصیت، گوجران، پنجاب) ✨ چودھری محمد ریاض (سیاسی شخصیت، گوجران، پنجاب) ✨ احسان الحق (ڈی آئی جی، ضلع نصیر آباد، بلوچستان) ✨ چودھری فخر الزمان (وزیر اعظم کشمیر کے مشیر) ✨ رانا عظیم (صدر وفاقی یونین آف جرنلسٹس)

تعزیت و عیادت



شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوالباسم محمد الیاس عطا قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صوری اور صوتی پیغامات کے ذریعے دکھیاروں اور غم زدوں سے تعزیت اور بہاروں سے عیادت فرماتے رہتے ہیں، ان میں سے منتخب پیغامات پیش کئے جا رہے ہیں۔

استاذ القراء کے انتقال پر تعزیت:

سب کا خاتمہ بالخیر مدینہ پاک میں بصورتِ شہادت جلوہ محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں ہو جائے۔ (اس کے علاوہ امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ نے ماہنامہ فیضانِ مدینہ کی ممبر شپ حاصل کرنے اور دعوتِ اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔)

یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا
میں خاک پر نگاہ درِ یار کی طرف
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

شہزادہ استاذ القراء کا جوابی پیغام:

شیخ طریقت امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ کا یہ صوری تعزیتی پیغام مجلس رابطہ بالعلماء والمشاخ کے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے استاذ القراء کے شہزادوں کو سنایا۔ اس کے بعد استاذ القراء کے بڑے شہزادے حضرت مولانا قاری واصل محمود جھنڈیر عباسی مَدَّ عَلَیْہِ الْعَالِی نے جو تاثرات دیئے وہ معمولی ترمیم کے ساتھ پیش خدمت ہیں: ”امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ نے ہمارے والد صاحب کے لئے جو دعائیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ حضرت صاحب نے مدنی قافلوں اور ماہنامہ فیضانِ مدینہ کے حوالے سے جو حکم فرمایا ہے اِنْ شَاءَ اللہ ہم یہ ماہنامہ بھی جاری کروائیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں، عقیدت مندوں کو بھی ترغیب دلائیں گے کہ وہ ہمارے والد صاحب کے ایصالِ ثواب کے لئے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میرا تنظیم المدارس اہل سنت سے بھی تعلق ہے،

استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد عبدالقیوم جھنڈیر عباسی نقشبندی (مہتمم مدرسہ محمدیہ عباسیہ انوار قادریہ کوٹلی جھنڈیر شیخ آباد پنجاب) کے انتقال پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ نے اپنے صوری پیغام (Video Message) کے ذریعے ان کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
سب مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی رضوی عنہ کی جانب سے
مولانا قاری واصل محمود جھنڈیر عباسی، مولانا قاری حسن محمود جھنڈیر عباسی، قاری محمد محمود جھنڈیر عباسی، قاری احسن محمود جھنڈیر عباسی، قاری احمد محمود جھنڈیر عباسی، قاری شاہد محمود جھنڈیر عباسی، اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللہِ وَبَرَکَاتُہُ!

حافظ محمد افضل عطاری مدنی نگران مجلس رابطہ بالعلماء والمشاخ پاکستان نے دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن حاجی ابو ماجد محمد شاہد مدنی سَلَّمَ عَلَیْہِ کو اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کے والد محترم استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد عبدالقیوم جھنڈیر عباسی نقشبندی کو ہارٹ ایک ہو گیا اور آپ نے تقریباً 55 سال کی عمر میں 2 رجب المرجب 1438ھ کو انتقال فرمایا ﴿اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ﴾ (اس کے بعد امیر اہل سنت نے مرحوم کے لئے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا: مجھے یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ بوقتِ وفات قاری صاحب مرحوم کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ مرحبا، مَا شَاءَ اللہ، جس کا آخری کلام لا اِلهَ اِلَّا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہ ہوا اِنْ شَاءَ اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، مغفرت یافتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ کاش! ہم

نہیں بنے تو مہربانی کر کے ممبر بن جائیے۔ میں سادے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتی ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

تعزیت و عیادت کے متفرق پیغامات

شیخ طریقت امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ نے اپنے صوری پیغامات کے ذریعے نعت خواں حاجی امین عطاری کے بھائی غلام یلین (مدنی کاؤنی باب المدینہ کراچی) ❖ رکن مجلس ”تحفظ اوراق مقدسہ“ پاکستان محمد عالم عطاری (مرکز الاولیاء لاہور) کے چھوٹے بھائی محمد احمد عطاری ❖ اسکو اڈرن لیڈر عامر عطاری کے والد غلام ربانی نوشاہی قادری ❖ کالو خان کے فرزند غلام یلین عطاری ❖ فیض محمد عطاری کے صاحبزادے حافظ محمد بلال عطاری مدنی ❖ عرفان عطاری کے والدین ❖ مدنی چینل کے ڈائریکٹر اسلم سنگھ (باب المدینہ کراچی) کے والد ❖ مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ (کراچی) کے ناظم عبدالقادر عطاری کی والدہ ❖ ڈاکٹر رانا انجم کی والدہ ❖ رئیس قریشی عطاری کی والدہ ❖ شہزاد عطاری کے فرزند بلال رضا ❖ حاجی محمد علی ❖ حافظ عبدالرشید عطاری ❖ احمد عطاری ❖ نور الدین عطاری ❖ حاجی اقبال ❖ عرفان علی عطاری اور مُشرف عطاری کے انتقال پر لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ نے اپنے صوری پیغامات کے ذریعے سید مقیم شاہ کی والدہ ❖ سید لیاقت حسین شاہ ❖ حاجی امتیاز عطاری ❖ کاشف عطاری ❖ وقاص عطاری ❖ مظهر عطاری ❖ قاری عبدالجید ❖ مدنی مرکز فیضان مدینہ گوادر (بلوچستان) کے مؤذن عبدالغفور عطاری کی عیادت اور ان کے لئے دعائے صحت فرمائی۔

تعزیت پر شکریہ کا پیغام گزشتہ ماہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سر دار احمد علیہ رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ کے شاگرد رشید شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حیات خان قادری (ہجیرہ ضلع پونچھ کشمیر) کے جو سال شہزادے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس موقع پر امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ نے صوری پیغام کے ذریعے ان سے تعزیت فرمائی تھی جس کا ذکر ماہنامہ فیضان مدینہ (اپریل) کے شمارے میں کیا گیا تھا۔ اس تعزیتی پیغام پر حضرت مولانا محمد حیات خان قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ نے امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کیا۔

میرے پاس امتحانی پر پے چیک ہونے کے لئے بھی آتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس وقت تنظیم المدارس میں بھی سب سے زیادہ کام دعوت اسلامی کا ہے۔ امیر اہل سنت کا یہ قدم مجھے بہت پسند آیا کہ انہوں نے سٹیوں کے بورڈ تنظیم المدارس کو ہی فعال بنانے کی کوشش فرمائی، یہ حضرت کا بہت احسن اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی دین مبین کا سچا خادم بنائے، وَمَا تَوْفِیْقِی اِلَّا بِاللّٰہِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَاِنَّہٗ اَنِیْب۔ میں حضرت سے یہ التماس کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے لئے دعا فرماتے رہیں اور میری والدہ صاحبہ اس وقت شدید علیل ہیں ان کے لئے بھی ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ دراز فرمائے۔ میرے والد صاحب کے جو نیک مقاصد تھے اللہ تعالیٰ مجھے ان کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔“

مولانا محمد بشیر فاروق قادری کی والدہ کے انتقال پر تعزیت

مولانا محمد بشیر فاروق قادری (سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، باب المدینہ کراچی) کی والدہ کے انتقال پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلٰیہ نے اپنے صوری پیغام (Video Message) کے ذریعے لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ یہ پیغام اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے:

تَحْصَدُا وَ نَصْبَیْ وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
سگ مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ کی جانب سے
حاجی محمد بشیر (سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ)، حاجی سلیم پولانی، حاجی الطاف پولانی، حاجی عمران پولانی، اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَۃُ اللہِ وَ بَرَکَاتُہُ!
دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کے نگران حاجی محمد عمران نے امی جان کے انتقال کی خبر دی ﴿اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاٰجِعُوْنَ﴾ (اس کے بعد امیر اہل سنت نے مرحومہ کے لئے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا): میں سب سوگواروں کو صبر کی تاکید کرتا ہوں۔ صبر کیجئے، اجر کے حقدار بنئے۔ زہے نصیب! مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لئے اسی ماہ تین تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت (عَلِیْہِ رَحْمَۃُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ) کی پیچیویں شریف کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ سے 2500 روپے کے مدنی رسائل خرید کر تقسیم رسائل کر لیجئے۔ ابھی تک ماہنامہ فیضان مدینہ کے ممبر

اپنے بہرگوں کو یاد رکھئے

ابو عبد اللہ شہاب عطار کی مٹی

شعبان المَعظمِ اسلامی سال کا آٹھواں مہینا ہے۔ اس میں جن صحابیات، علمائے اسلام اور اولیائے عظام کا وصال ہوا، ان کا مختصر ذکر 5 عنوانات کے تحت کیا گیا ہے۔

صحابیات: 1 شہزادی رسول حضرت اُمّ کلثوم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی

ولادت اعلانِ نبوت سے 6 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی اور وصال شعبان 9ھ میں ہوا، نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آپ کا نکاح امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا۔ (الاصابہ: 460/8) **2** اُمّ المومنین حضرت سیدنا حفصہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا ذکر خیر صفحہ 47 پر ملاحظہ فرمائیے۔

علمائے اسلام: 3 کروڑوں شافعیوں کے

امام حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن ادریس ہاشمی شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی ولادت غزہ فلسطین

میں 150ھ میں ہوئی اور یکم شعبان 204ھ مصر میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک قرائۃ صُغْرٰی (جبلِ معظّم جنوبی قاہرہ) مصر

میں مرجع خاص وعام ہے۔ آپ عظیم فقیہ، مجتہد، محدث، مصنف، فقہ شافعی کے بانی وامام اور آفتابِ اسلام ہیں۔ آپ کی

تصانیف میں سے ”کتاب الاثم“ اور ”کتاب الرسالہ“ کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ (سیر اعلام النبلاء: 411 تا 377/8، وفیات الاعیان، 4/23، الاعلام

لذکر کی: 26/6) **4** امام حسن بن محمد صغانی حنفی لاہوری، محدث، نقوی، مصنف اور علمائے عرب و عجم کے استاذ ہیں۔ 577ھ مرکز الاولیا

لاہور میں پیدا ہوئے اور 19 شعبان 650ھ میں بغداد میں وصال فرمایا، آپ کی 56 تصانیف میں احادیث کا مجموعہ مَشَارِقُ الْاَنْوَارِ

النَّبَوِیَّة کو شہرت حاصل ہوئی۔ (ہدایۃ النفع، ص 281، تاریخ الاسلام، 444/47) **5** خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ غلام رسول

رَضَوِی، استاذ العلماء، شیخ الحدیث اور بانی جامعہ نظامیہ رَضَوِیہ مرکز الاولیا لاہور ہیں۔ 11 جلدوں پر مشتمل تَفْہِیْمُ الْبُخَارِی شرح

صحیح البخاری آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ ریسنر (امر ترس) ہند میں 1323ھ میں پیدا ہوئے اور 27 شعبان 1422ھ میں

وصال فرمایا۔ مزار مبارک جامعہ سراجیہ رَضَوِیہ اعظم آباد سردار آباد (فیصل آباد) میں ہے۔ (تذکرہ حضور محدث کبیر پاکستان،

ص 23، 31، 98۔ روشن ستارے، ص 155-163) **6** قاضی محمد بن سباعہ تہنیتی حنفی، فقیہ، محدث اور بہت عبادت گزار تھے، اَدَبُ الْقَاضِی

اور نوادر آپ کی تصانیف سے ہیں، 130ھ میں پیدا ہوئے اور شعبان 233ھ میں وصال فرمایا۔ (الجواہر المفیہ، 2/58، المعتمد، 11/198)

اولیائے کرام: 7 امام الاولیا پیر سید محمد راشد شاہ رَضَوِی دھنی کی پیدائش 1117ھ کو ہوئی اور یکم شعبان 1233ھ کو

پیر جو گوٹھ (ضلع خیر پور میرس) باب الاسلام سندھ میں وصال ہوا۔ آپ سلسلہ قادریہ راشدہ کے بانی ہیں۔ آپ کا مزار مرجع خاص

وعام ہے۔ (تذکرہ صوفیائے سندھ، ص 272-275) **8** حضرت سیدنا ابو الفرج محمد یوسف طرطوسی، عالم باعمل، ولی کامل اور سلسلہ قادریہ

رَضَوِیہ عطاریہ کے شیخ طریقت ہیں، آپ شام کے شمال مغربی ساحلی شہر طرطوس میں پیدا ہوا ہوئے اور 3 شعبان 447ھ میں یہیں

وصال فرمایا۔ (تذکرہ مشائخ قادریہ رَضَوِیہ، ص 215، شریف التواریخ، 1/628) **9** سلطان العارفین حضرت سیدنا بابزید ظَنُّوْرِ بَنَطَامِی، عارفین

کے امام اور زمانے کے غوث تھے، 160ھ میں بَنَطَام (صوبہ سنجان) ایران میں پیدا ہوئے اور یہیں 15 شعبان 261ھ میں وصال

فرمایا۔ مزار مبارک مرجع خلافت ہے۔ (طبقات الصوفیہ، ص 67-68، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص 70) **10** ولی کامل پیر سید جماعت علی شاہ

لاٹانی نقشبندی، 1276ھ میں علی پور سیدال (ضلع نارووال، پنجاب) پاکستان میں پیدا ہوئے اور 16 شعبان 1358ھ میں یہیں وصال فرمایا مزار مبارک پر لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ (تذکرہ اکابر اہلسنت، ص 118) **11** سید الاولیاء حضرت سید محمد

کاپوی تریبڑی قادری کی ولادت 1006ھ میں ہوئی اور وصال 26 شعبان 1071ھ کو کالپی (یوپی) ہند میں ہوا۔ آپ سلسلہ

قادریہ رضویہ عطاریہ کے شیخ طریقت، عالم باعمل، خانقاہ محمدیہ کاپویہ کے بانی اور کئی کتب کے مصنف ہیں۔ (تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ، 314-322) **خاندان و**

احباب اعلیٰ حضرت: 12 استاذ العلماء مفتی عبدالکریم دُرس آنرہری قادری، عالم،

اور مصنف ہیں۔ پیدائش باب المدینہ (کراچی) میں 1277ھ کو ہوئی اور وصال 19 شعبان

میوہ شاہ قبرستان باب المدینہ (کراچی) میں مدفون ہیں۔ (تذکرہ بزرگان کراچی، 86-90) **13** بردار اعلیٰ

خان نوری رضوی، عالم، مفتی اور علم الفقہ انص (وراثت کے علم) کے ماہر تھے۔ 1293ھ میں پیدا ہوئے اور 21 شعبان 1358ھ میں وصال فرمایا، مزار قبرستان بہاری پور نزد پولیس لائن سٹی اسٹیشن بریلی شریف (یوپی، ہند) میں ہے۔ (معارف رئیس الاقیاء، 32، تجلیات تاج الشریعہ، 89)

خلفاء تلامذہ اعلیٰ حضرت: 14 مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسنات محمد احمد قادری اُشرنی 1314ھ اُور (راجستھان) ہند میں

پیدا ہوئے اور 2 شعبان 1380ھ میں پاکستان کے دوسرے بڑے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں وفات پائی، مزار داتا گنج بخش سید علی

ہجویری کے قرب میں دفن ہونے کا شرف پایا۔ آپ حافظ، قاری، عالم باعمل، بہترین واعظ، مسلمانوں کے متحرک رہنما اور کئی کتب

کے مصنف تھے۔ تصانیف میں تفسیر الحسنات (8 جلدیں) آپ کا خوبصورت کارنامہ ہے۔ (تذکرہ اکابر اہلسنت، ص 442، تفسیر الحسنات، 1/46)

15 استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد رحیم بخش آروزی رضوی، جید مدرس، مؤلف، واعظ، مجاز طریقت اور بانی مدرسہ فیض الغربا

(آرہ بہار ہند) تھے۔ 8 شعبان 1344ھ میں وفات پائی مولانا باغ قبرستان آرہ (ضلع شاہ آباد بہار) ہند میں تدفین ہوئی۔ (تذکرہ خلفائے اعلیٰ

حضرت، ص 137) **16** سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا محمد عبدالاحد محدث پبلی بھیت، عالم باعمل، مجاز طریقت، استاذ العلماء اور

واعظ خوش بیاں تھے۔ 1298ھ میں پبلی بھیت (یوپی) ہند میں پیدا ہوئے اور یہیں 13 شعبان 1352ھ میں وصال فرمایا،

گنج مراد آباد (ضلع اتار) ہند میں دربار مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی کے قرب میں دفن کیے گئے۔ (تذکرہ محدث سورتی 209-218)

17 مفتی محمد عمر الدین ہزاروی، مفتی اسلام، مصنف، نامور علمائے اسلام میں سے ہیں۔ طویل عرصہ بمبئی میں خدمت دین میں

مصرف رہے۔ وصال 14 شعبان 1349ھ میں فرمایا، مزار شریف کوٹ نجیب اللہ (ضلع دنی حصار، مانسہرہ) خیبر پختونخوا پاکستان

میں ہے۔ (تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت، 622-627) **18** حضرت مولانا سید حسین علی رضوی اجیری عالم باعمل، کتاب ”دربار چشت اجیر“

کے مصنف، انجمن تبلیغ محبت خواجہ مشن ہند اجیری کے بانی اور روضہ خواجہ غریب نواز کے مجاور تھے۔ وصال 22 شعبان 1387ھ

میں ہوا اور اناساگرھاٹی اجیر (راجستھان) ہند میں دفن کیے گئے۔ (تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت، 448-462) **19** مفتی مالیکہ شیخ محمد علی

مالیکی، عالم، مدرس حرم، مصنف کتب کثیرہ اور امام التوحہ ہیں۔ 1287ھ میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور طائف میں

28 شعبان 1367ھ کو وصال فرمایا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب دفن ہونے کی سعادت پائی۔ (مختصر نشر النور والزم، ص 181، امام احمد رضا محدث بریلوی اور علامہ مکرمہ، ص 136-149)

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجَعِينَ

اے دعوتِ اسلامی تری دھوم مچی ہے



بھائیوں کے ساتھ ساتھ عمومی (Normal) اسلامی بھائیوں نے نیز رکن سندھ اسمبلی جاوید ناگوری نے بھی شرکت فرمائی۔ **اجتماعِ ذکر و نعت برائے ایصالِ ثواب** مجلس حجرو وکلا کے تحت مرکز الاولیا (لاہور) میں پنجاب بار کونسل کے ممبر عبدالصمد خان کے والد صاحب کے ایصالِ ثواب کے لئے سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں حجرو وکلا نے شرکت فرمائی۔ **کُتبِ میلوں میں مکتبۃ المدینہ کے بستے** دعوتِ اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نہ صرف کتب و رسائل کی اشاعت اور سستے داموں فروخت کا اہتمام کرتا ہے بلکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً اندرون و بیرون ملک مختلف کتب میلوں میں بستوں (Stalls) کی ترکیب بھی بناتا ہے۔ فروری 2016 اور فروری 2017 میں سلطنت عثمان کے دارالحکومت مَصر جبکہ مارچ 2017 میں شارجہ (متحدہ عرب امارات UAE) میں منعقدہ عالمی کتب میلوں (International Book Fairs) میں نیز دسمبر 2016 میں ایکسپو سینٹر باب المدینہ کراچی اور مارچ 2017 میں زرعی یونیورسٹی (Agriculture University) سرور آباد (فیصل آباد) میں منعقدہ کُتبِ میلوں میں مکتبۃ المدینہ کے بستے لگائے گئے۔ ان بستوں پر مکتبۃ المدینہ سے مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے کتب و رسائل رکھے گئے۔ مجموعی طور پر ہزاروں اسلامی بھائی ان بستوں پر تشریف لائے جن میں مختلف رسائل تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی دعوت بھی پیش کی گئی۔ **مختلف کورسز** مجلس مدنی کورسز کے تحت جمادی الاخریٰ 1438ھ مطابق مارچ 2017ء میں پاکستان میں 52 مختلف مدنی کورسز کروائے گئے جن میں 7 دن کا فیضانِ نماز کورس، 12 دن کا اصلاحِ اعمال کورس اور 26 دن کا مدنی کام کورس شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ان کورسز کے شرکا کی تعداد 1053 رہی۔ **سحری اجتماعات کی دھوم** اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ و دعوتِ اسلامی

مجلس خُدام المساجد کی کاوشیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ و دعوتِ اسلامی ”مسجد بھر و تحریک“ بھی ہے اور ”مسجد بناؤ تحریک“ بھی۔ متعدد ایسے گاؤں اور دیہات وغیرہ جہاں مسلمان دین سے دوری کے باعث مسجدوں سے دور تھے وہاں دعوتِ اسلامی کے مدنی قافلوں نے جاکر مساجد کو آباد کیا۔ اسی طرح جن علاقوں میں مسجد بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے مناسب مقام پر مساجد کی تعمیر کے لئے دعوتِ اسلامی کی ”مجلس خدام المساجد“ مصروفِ عمل ہے۔ اس مجلس کی کاوشوں سے ملک اور بیرون ملک تقریباً دو ہزار مساجد بنائی جا چکی ہیں جبکہ تادمِ تحریر صرف پاکستان میں کم و بیش 510 مساجد زیرِ تعمیر ہیں۔ زیرِ تعمیر مساجد کی تکمیل پر وقتاً فوقتاً مساجد کا افتتاح ہوتا رہتا ہے اور وہاں باجماعت نماز پڑگانہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مجلس خُدام المساجد کے تحت گزشتہ مہینے اسلام آباد کے علاقے بری امام میں فیضانِ جمال مصطفیٰ مسجد **نہیبی پلازہ** موبائل مارکیٹ عبداللہ ہارون روڈ صدر باب المدینہ (کراچی) میں فیضانِ آلِ برکات مسجد **مکھٹی ملیر باب** المدینہ (کراچی) میں فیضانِ خدیجہ الکبریٰ مسجد **مدینۃ الاولیا** ملتان میں مدینہ مسجد **اورنگی ٹاؤن باب المدینہ** (کراچی) میں جامع مسجد اشرف اور جامع مسجد فیضانِ غوث اعظم کا افتتاح ہوا۔ اسلام آباد میں جامع مسجد فیضانِ غوث اعظم اور مدرسۃ المدینہ کا سنگِ بنیاد رکھا گیا جبکہ بارغ عطار (کلاہن، ضلع میانوالی، پنجاب) پاکستان میں فیضانِ جمال مصطفیٰ مسجد کی تعمیرات کا آغاز ہوا۔ **خصوصی اسلامی بھائیوں کا سنتوں بھر اجتماع** دعوتِ اسلامی کی مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت باب المدینہ (کراچی) کے علاقے موسیٰ لین کے مقامی ہال میں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن شوریٰ نے سنتوں بھر بیان فرمایا۔ اس اجتماع میں کثیر تعداد میں خصوصی (گوئے، بھرے اور تاپینا) اسلامی

سلسلہ ہوتا ہے۔ اشراق و چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد صلوٰۃ و سلام پر سحری اجتماع کا اختتام ہوتا ہے۔ تادم تحریر (12 رجب المرجب 1438ھ تک) صرف مرکز الاولیا (لاہور) میں 211 سحری اجتماعات ہو چکے ہیں جن میں مجموعی طور پر ہزاروں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت پائی۔ **دارالمدینہ میں نتائج کا اعلان اور نئے تعلیمی سال کا آغاز** دینی اور دنیاوی تعلیم کے حسین امتزاج دعوتِ اسلامی کے اسلامک اسکول سسٹم دارالمدینہ میں تعلیمی سال 17-2016ء کے اختتام کے موقع پر 29 اور 30 مارچ 2017ء کو نتائج کے اعلان کی ترکیب ہوئی۔ اس موقع پر مدنی متوں اور مدنی مینیوں نے خوبصورت انداز میں حمد و نعت اور مدنی خاکے وغیرہ پیش کئے۔ پری پرائمری کے 206 جبکہ پرائمری کے 271 طلباء کو 100% حاضری پر Full Attendance Certificates جبکہ بہترین تعلیمی کارکردگی پر پری پرائمری کے 2215 جبکہ پرائمری کے 1479 Academic Excellence Certificates طلباء کو دیے گئے۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہ** 10 اپریل 2017ء سے تعلیمی سال 18-2017ء کا آغاز ہو چکا ہے۔

کے مدنی ماحول میں دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کے عطا کردہ نیک بننے کے نسخے یعنی 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہر ہفتے میں پیر یا کسی اور دن نفلی روزے سے متعلق ہے۔ نفلی روزوں کے فیضان کو مزید عام کرنے کے لئے بالخصوص رَجَبُ الْمُزَجَّبِ اور شَعْبَانُ الْمُبْعَظَمِ میں سحری اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے۔ ان سحری اجتماعات میں نمازِ عشاء کے بعد سنتوں بھر ایمان ہوتا ہے، نماز تو یہ ادا کی جاتی ہے، فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پُر کیا جاتا ہے، سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب بیان ہوتے ہیں اور پھر وقفہ آرام ہوتا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے تقریباً ایک گھنٹہ 19 منٹ پہلے اسلامی بھائیوں کو بیدار کیا جاتا ہے، تہجد کے فضائل وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں، نماز تہجد ادا کی جاتی ہے اور پھر دعا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اذانِ فجر کے بعد اسلامی بھائی صدائے مدینہ لگاتے یعنی مسلمانوں کو نمازِ فجر کے لئے جگاتے ہیں۔ نمازِ فجر باجماعت پڑھنے کے بعد اشراق و چاشت کا وقت شروع ہونے تک مدنی حلقے (ترجمہ و تفسیر، فیضانِ سنت کے 4 صفحات اور شجرہ شریف وغیرہ پڑھنے) کا

اسلامی بہنوں کی مدنی خبریں

کے لئے 31 مارچ 2017 سے سردار آباد (فیصل آباد)، گلزارِ طیبہ (سرگودھا)، گجرات اور زم زم نگر (حیدرآباد) میں 12 دن کے ”فیضانِ نماز کورس“ کی ترکیب ہوئی، شرکاء کی تعداد تقریباً 117 رہی۔ **مجلس رابطہ (اسلامی بہنیں) کے تحت اسلامی بہنوں میں مدنی کام** مجلس رابطہ کے تحت اسلامی بہنوں تک دعوتِ اسلامی کا مدنی پیغام پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں ایک شخصیت اسلامی بہن کے گھر مدنی حلقے کی ترکیب بنائی گئی جس میں بنت عطار سَلَمَتُہَا الْعَقْدَانِے خصوصی شرکت فرمائی اور مدنی پھول عنایت فرمائے۔

مختلف کورسز فقہ، تہجد، مہلکات، معاملات وغیرہ کے بارے میں اسلامی بہنوں کی تربیت کے لئے 15 مارچ 2017ء سے باب المدینہ (کراچی)، سردار آباد (فیصل آباد)، گلزارِ طیبہ (سرگودھا)، راولپنڈی، گجرات اور زم زم نگر (حیدرآباد) میں 12 دن کے ”اسلامی زندگی کورس“ کی ترکیب ہوئی جن میں شرکاء کی تعداد تقریباً 193 رہی۔ خصوصی (گوگئی، بہری اور تائینا) اسلامی بہنوں میں مدنی کام کرنے کا جذبہ رکھنے والیوں کے لئے 31 مارچ 2017ء سے باب المدینہ (کراچی) میں 12 دن کا ”خصوصی اسلامی بہن کورس“ ہوا۔ فقہ، تہجد اور نماز کے ضروری احکام سکھانے



بیرون ملک کی مدنی خبریں



کے ہمراہ مزار شریف پر حاضر ہو کر فاتحہ خوانی بھی فرمائی۔

مدنی قافلوں میں سفر ✨ ایک مدنی قافلے نے اوسلو ناروے

(Oslo Norway) سے لیتھوانیا (Lithuania) یورپ کا سفر کیا

اور وہاں نیکی کی دعوت عام کی نیز تنزانیہ (Tanzania) میں

عاشقان رسول کے چھ مدنی قافلوں نے 12 دن کے لئے سفر

اختیار کیا۔ ✨ بغدادی کابینہ بریڈ فورڈ (Bradford-U.K) سے

ایک مدنی قافلے نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے ڈنمارک

(Denmark) کا سفر کیا۔ مدنی قافلے کی برکت سے کئی اسلامی

بھائیوں نے عمامہ شریف سجانے، مدرسۃ البیدینہ بالغان میں

پڑھنے اور دیگر مدنی کاموں میں شرکت کی نیتیں کیں۔ **مسجد کا**

افتتاح ✨ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت بلوینا

(Bologna) اٹلی میں فیضانِ غوث اعظم مسجد کے افتتاح کے

سلسلے میں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوا جس میں کثیر اسلامی

بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ **مدرسۃ البیدینہ آن لائن (Online) کا**

افتتاح ✨ مدنی مرکز فیضانِ مدینہ بمبئی ہند میں مدرسۃ البیدینہ

آن لائن (Online) کا افتتاح ہوا۔

قرعہ اندازی برائے ”جواب دیجئے“

”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ اپریل 2017ء کے شمارے میں ”جواب

دیجئے“ کے عنوان کے تحت دیے جانے والے سوالات کے

جوابی کوپن کثیر تعداد میں موصول ہوئے۔ ان کی قرعہ اندازی

15 اپریل 2017ء بروز ہفتہ دعوتِ اسلامی کے عالمی مدنی

مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ (کراچی) میں مدنی مذاکرے کے

دوران کی گئی۔ حسن اتفاق کہ اس ماہ بھی جامعۃ البیدینہ فیضانِ

محمدی گلشنِ معمار باب المدینہ (کراچی) کے طالب علم ”اسد

رضاء عطاری ولد محب علی“ کا نام نکلا اور انہیں 1100 روپے

کا ”مدنی چیک“ پیش کر دیا گیا۔

قبولِ اسلام

چٹاگانگ (بنگلہ دیش) میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع

میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا جن کا اسلامی نام

عبدالرحمن رکھا گیا۔ لاطینی امریکہ کے ملک سورینام

(Suriname) میں بھی ایک غیر مسلم نے مبلغِ دعوتِ

اسلامی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

مختلف کورسز ✨ مجلس مدنی کورسز کے تحت جمادی

الآخری 438ھ بمطابق مارچ 2017ء ہند میں اسلامی بھائیوں

کے لئے 22 مختلف مدنی کورسز کروائے گئے جن میں 7 دن کا

فیضانِ نماز کورس، 12 دن کا اصلاحِ اعمال کورس اور 26 دن کا

مدنی کام کورس شامل ہے۔ مجموعی طور پر ان کورسز کے شرکاء کی

تعداد 779 رہی۔ ✨ اپریل 2017ء میں بنگلہ دیش میں اسلامی

بھائیوں کے لئے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کا آغاز ہوا جس

میں شرکاء کی تعداد تقریباً 70 ہے۔ ✨ 25 مارچ 2017ء کو ہند

کے شہر بیھونڈی میں اسلامی بہنوں کے لئے 26 گھنٹے کا مدنی

انعامات کورس ہوا جس میں شرکاء کی تعداد 58 تھی۔ ✨ 26 مارچ

2017ء کو بنگلہ دیش کے شہروں ڈھاکہ، دیناج پور اور چٹاگانگ

میں بھی اسلامی بہنوں کے لئے 26 گھنٹے کے مدنی انعامات کورس

کی ترکیب ہوئی، شرکاء کی تعداد تقریباً 63 رہی۔ **دربارِ غریب**

نواذ کی مسجد میں سنتوں بھرا اجتماع ✨ جمیر شریف ہند میں

حضرت سیدنا خواجہ غریب نواذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ

شریف کے احاطے میں قائم مسجد اکبر میں ہند کے رکنِ شوریٰ

نے سنتوں بھرا بیان فرمایا جس میں کثیر تعداد میں عاشقانِ

رسول نے شرکت فرمائی۔ رکنِ شوریٰ نے اسلامی بھائیوں

course” for Islamic brothers has been started in April 2017 in Bangladesh. About 70 participants are attending this course. ♦ A 26-hour “Madani In’amaat course” for Islamic sisters was conducted in Indian city Bhiwandi on 25th March, 2017. 58 participants attended the course. ♦ A 26-hour “Madani In’amaat course” for Islamic sisters was also conducted in Dhaka (Bangladesh), Dinajpur (Bangladesh) and Chittagong (Bangladesh) on 26th March 2017. About 63 participants attended the course.

Inauguration of Madrasa-tul-Madinah online

Madrasa-tul-Madinah online has been inaugurated in Madani Markaz Faizan-e-Madinah, Bombay (India).

Madani Qafilah:

For conveying the Call to Righteousness, a Madani Qafilah travelled from Baghdadi Kabinah Bradford (UK) to Denmark. By the blessing of Madani Qafilah, many Islamic brothers made the intentions of adorning their heads with Imamah [Islamic turban], studying in Madrasa-tul-Madinah Balighaan [for adults], and participating in other Madani activities.

Sunnah-inspiring Ijtimaa in the Masjid near the mausoleum of Ghareeb Nawaz رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

Situated within the premises of the mausoleum of Sayyiduna Khuwajah Ghareeb Nawaz رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ is Masjid Akbar in Ajmer, Hind in which a member of Shura from Hind delivered a Sunnah-inspiring speech attended by a large number of devotees of Rasul. The member of Shura, accompanied by Islamic brothers, visited the blessed tomb and recited the “Fatiha” as well.

Travel with Madani Qafilahs.

A Madani Qafilah travelled from Oslo, Norway, to Lithuania, Europe, promoting the call to righteousness there. Moreover, six Madani Qafilahs of the devotees of Rasul travelled for 12 days in Tanzania.

Inauguration of Masjid

On the occasion of the inauguration of Faizan-e-Ghaus-e-A’zam Masjid, an Ijtimaa-e-Zikr-o-Na’at was held by Dawat-e-Islami’s Majlis Khuddam-ul-Masajid in Bologna, Italy. The Ijtimaa was attended by a large number of Islamic brothers.

Inauguration of Madrasa-tul-Madinah online

Madrasa-tul-Madinah online has been inaugurated in Madani Markaz Faizan-e-Madinah, Bombay (India).

Travel with Madani Qafilah

For conveying the Call to Righteousness, a Madani Qafilah travelled from Baghdadi Kabinah Bradford (UK) to Denmark. By the blessing of Madani Qafilah, many Islamic brothers made the intentions of adorning their heads with Imamah [Islamic turban], studying in Madrasa-tul-Madinah Balighaan [for adults], and participating in other Madani activities.

students were conferred with certificates. Upon the best educational performance, 2215 Pre-primary students whereas 1479 Primary students were awarded with Academic excellence certificate. **الحمد لله رب العالمين!** Since 10 April 2017, new educational year has been initiated.

Madani News of Islamic Sisters

Miscellaneous courses: For the Tarbiyat of Islamic sisters about Fiqh, Tajweed, Mohlikaat, Maamlat, 12-day 'Islami Zindagi course' from 15th March 2017, was held in the following cities: Babul Madinah (Karachi), Sardarabad (Faisalabad), Gulzar-e-Tayyibah (Sarghoda), Rawalpindi, Gujrat and Zamzam Nagar (Hyderabad), attended by approximately 193 participants. ♦ A 12-day "Special Islamic sister course" was conducted in Karachi [Pakistan] which started on 31st March, 2017. The course was offered to those Islamic sisters who have the yearning for carrying out Madani activities amongst the special Islamic sisters (mute, hearing-impaired and blind Islamic sisters) ♦ Starting from 31st March, 2017, a 12-day "Faizan-e-Namaz" course was conducted in Faisalabad, Sargodha, Gujrat and Hyderabad for teaching basic laws of Fiqh, Tajweed and Salah. About 117 participants attended the course.

Madani activities of Majlis Rabitah (Islamic sisters)

Madani activities: Through Majlis Rabitah, efforts are being made to convey the Madani message of Dawat-e-Islami to the Islamic sisters. Madani Halqah was arranged at the residence of an Islamic sister in Karachi. Bint-e-Attar سلمى الفان [daughter of Ameer-e-Ahl-e-Sunnat] specially attended the halqah and provided the Islamic sisters with Madani pearls.

Overseas Madani News

Madani news of embracing Islam

In the weekly Sunnah-Inspiring Ijtimā' at Chittagong (Bangladesh), a Non-Muslim embraced Islam who was then named Abdur-Rahman. Also, a Non-Muslim embraced Islam in Suriname (South America) on the hands of a Muballigh of Dawat-e-Islami.

Different courses

In Jumadal Ukhra 1438, March 2017, 22 different Madani courses were offered in Hind by Majlis Madani courses including 7-day Faizan-e-Namaz course, 12-day Islah-e-A'maal course and 26-day Madani work course. As a whole, the number of attendees was 779. ♦ A 63-day "Madani Tarbiyyati

Maktaba-tul-Madinah stalls at book fairs

Maktaba-tul-Madinah, the publishing department of Dawat-e-Islami, not only publishes books and booklets and sells them at low prices but also sets up its stalls from time to time at different book fairs within and outside Pakistan with the purpose of promoting the call to righteousness. The stalls of Maktaba-tul-Madinah were set up at the international book fairs held in Masqat – the capital of Oman – in February, 2016 and February, 2017; and in Sharjah (UAE) in March 2017. These stalls were also set up in the book fairs held at Expo Centre Karachi and Agricultural University Sardarabad (Faisalabad) in December 2016 and in March 2017 respectively. Books and booklets in different languages, released by Maktaba-tul-Madinah, were made available at these stalls which were visited by thousands of Islamic brothers, as a whole. Different booklets were distributed among the visitors and call to righteousness was also conveyed to them.

Different Courses

In Jumadal-Ukhra 1438, March 2017, fifty two different Madani courses were offered in Pakistan by Majlis Madani courses including 7-day Faizan-e-Namaz course, 12-day Islah-e-A'maal course and 26-day Madani work course. As a whole, the number of attendees was 1053.

Popularity of Sahri Ijtimā'at (congregation)


!الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ In the Madani environment of Dawat-e-Islami, along with other righteous deeds, people are also encouraged to observe supererogatory fasts. One Madani In'aam, mentioned in 72 Madani In'amaat booklet bestowed by Shaykh-e-Tareeqat Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, داعية بركة الله داعية is about observing fast either on Monday or any other day in a whole week. . In order to propagate the blessed deed of supererogatory fasts, Sahri Ijtimā'at are frequently held especially in the sacred months of Rajab and Shaban. Right after Isha Salah, Sunnah inspiring Bayan is started, Salat-al-Tawbah (the Salah of repentance) is performed, Islamic brothers do Fikr-e-Madinah (Assessing deeds whilst filling the blanks given in the pocket-sized Madani In'amaat booklets), sleeping and waking up Sunnah and its decorum are delivered then there is a rest break. Approximately, one hour and 19 minutes prior to the end time of Sahri, Islamic brothers are woken up; they listen to the virtues of offering Tahajjud Salah etc. Then Tahajjud Salah is performed thereafter supplication. After the Fajr Azan, Islamic brothers call out Sada-e-Madinah i.e., they wake up the Muslims for Fajr Salah. After having performed Fajr Salah, Madani Halqahs (consisting of recitation of Glorious Quran with Tarjuma and Tafseer, 4 pages from Faizan-e-Sunnat and Shajarah etc.) are conducted until there is a time of Ishraq and Chaasht which is followed by Salat-o-Salaam, the last spiritual recitation. Until now (12 Rajab-ul-Murajjab 1438), in Markaz-ul-Auliya (Lahore) alone, 211 Sahri Ijtimā'at have been conducted, attended by thousands of Islamic brothers collectively.

Announcement of result in Dar-ul-Madinah and the new educational year has initiated

Upon the completion of the study period of 2016-17, the result announcement ceremony of Islamic schooling system Dar-ul-Madinah (The incredible combination of both Islamic and worldly education) was conducted on the 29th and 30th of March. On the auspicious occasion, Madani children recited Hamd and Naat in a graceful manner as well as they presented lovely Madani Khakay performance. For 100% attendance, 206 Pre-primary students whereas 271 Primary

May Dawat-e-Islami prosper!

Madani News of Departments



By the grace of Allah ﷻ, Dawat-e-Islami has conveyed its Madani message to almost 200 countries of the world. It is also rendering services to Sunnah in more than 103 departments. Please have glimpses of the Madani activities of a few departments:

Efforts of the Majlis Khuddam-ul-Masajid

By the grace of Allah ﷻ, Dawat-e-Islami is not only a “Masjid-filling movement” but also a “Masjid-making movement”. Due to the non-observance of Islamic teachings among the Muslims, many Masajid had been permanently locked in several villages etc. Reaching such villages, the Madani Qafilahs of Dawat-e-Islami opened those Masajid, cleaned them and conveyed call to righteousness to the locals, making them attend those Masajid. Moreover, fulfilling Islamic and legal requirements, the Majlis Khuddam-ul-Masajid of Dawat-e-Islami is busy building Masajid in the areas where there is a need. These Masajid are constructed at suitable sites. By virtue of the efforts made by this Majlis, more or less 2000 Masajid have so far been constructed within and outside Pakistan. Moreover, until the time of writing this news, more or less 510 Masajid are under construction in Pakistan alone. After the completion of the construction work, these Masajid are inaugurated from time to time and five times congregational Salahs are started there. Mentioned here is a list of the Masajid inaugurated in March 2017 under the supervision of the Majlis Khuddam-ul-Masajid: Faizan-e-Jamal-e-Mustafa Masjid at Bari Imam area in Islamabad ♦ Faizan-e-Aal-e-Barakaat Masjid at Najeebi Plaza Mobile Market Abdullah Haroon Road, Sadar Bab-ul-Madinah, (Karachi) ♦ Faizan-e-Khadeejat-ul-Kubra Masjid at Makkah city Malir Bab-ul-Madinah, (Karachi) ♦ Madinah Masjid in Madinah-tul-Awliya Multan ♦ Jam-e-Masjid Ashraf and Jam-e-Masjid Faizan-e-Ghaus-e-A'zam in Orangi Town Bab-ul-Madinah, (Karachi). Furthermore, the foundation stone of Jam-e-Masjid Faizan-e-Ghaus-e-A'zam and Madrasa-tul-Madinah was laid in Islamabad, whereas the construction work of Faizan-e-Jamal-e-Mustafa Masjid was started in Baagh-e-Attar (Kala Baagh, district Mianwali) Punjab, Pakistan.

Sunnah-inspiring Ijtimaa for “Special Islamic Brothers”

A Sunnah-inspiring Ijtimaa was held by Dawat-e-Islami's Majlis for “Special Islamic brothers” at a local hall in Musa Lane area of Bab-ul-Madinah, (Karachi) in which a member of Shura delivered a Sunnah-inspiring speech. This Ijtimaa was attended by a large number of “Special Islamic Brothers” (i.e. the speech-impaired, the visually-impaired and the hearing-impaired). Moreover, normal Islamic brothers and a member of the Sindh assembly, Jawed Nagori, also attended it.

Ijtimaa-e-Zikr-o-Na'at for Isaal-e-Sawab

A Sunnah-inspiring Ijtimaa was held in Markaz-ul-Awliya (Lahore) by Majlis judges and lawyers for the Isaal-e-Sawab of the father of Mr. Abdus Samad Khan, a member of the Punjab bar council. The Ijtimaa was attended by a large number of judges and lawyers.

4 کے عدد میں حیران کن مطابقت

فقہی پہلیاں

1 وہ کون سی نماز ہے جس کی
آخری صف سب سے افضل ہے؟

2 وہ کون سا مرد جانور ہے
جو حلال ہے؟

3 اسلام میں سب سے پہلے کس کا
مال بطور میراث تقسیم ہوا؟

4 کون سی سنت ہے
جو فرض سے افضل ہے؟

(1) نماز (2) چار (3) 190 (4) حضرت سعد بن ربیع (5) 197
(6) ہمدانی (7) 198 (8) 199 (9) 200 (10) 201

- خلفائے راشدین بھی چار ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین (کاغذ القلوب، ص 302)
- ماہ حرام (حرمت والے مہینے) چار ہیں (رجب، صفر، ذی القعدة، ذی الحجة الحرام اور محرم الحرام)۔
- افضل ترین فرشتے چار ہیں (حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام)۔
- آسمانی کتابوں میں مشہور کتابیں چار ہیں (قرآن پاک، تورات، زبور اور انجیل)۔
- وضو کے اعضا چار ہیں (بائی، خوشی، چار فرض ہیں، چہرہ، دھونا، کھینچنا سمیت)
- دونوں ہاتھ دھونا، چھاتی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کھینچنا سمیت دھونا)۔
- افضل ترین کلمات تسبیح چار ہیں (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْحَمْدُ لَكَ يَا
- وَدَا إِلَهُ الْأَلَمَّةُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ)
- حساب کے اہم ارکان چار ہیں: اکائیاں، دہائیاں، سینکڑے اور ہزار۔
- اوقات چار ہیں: ساعت (گھنٹی)، دن، مہینہ اور سال۔
- سال کے موسم چار ہیں: سرما، گرما، بہار اور خزاں۔
- طبائع چار ہیں: حرارت (گرم)، برودت (سرد)، پیوست (خشکی)،
- رطوبت (تری)۔

SocialMedia
DawateIslami

مجلس شوالہ میڈیا دعوتِ اسلامی

Follow Us

f IlyasQadriZiaee
f dawateislami.net
f maulanaimranattari
f MadaniChannel Official

مکمل بہارِ شریعت موبائل ایپلی کیشن

فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب

اس ایپلی کیشن میں ہے:

- فقہی ابواب کے مطابق قرآنی آیات اور احادیث کی ترتیب
- بہارِ شریعت میں استعمال ہونے والی فقہی اصطلاحات
- قدیم اردو زبان میں مستعمل مشکل الفاظ کے معانی کی سہولت
- جدید سرچ (Search) کی سہولت
- فقہی مسائل شیئر (Share) کرنے کی سہولت
- اردو اور عربی عبارات الگ الگ رسم الخط (Font) میں پڑھنے کی سہولت

www.dawateislami.net/downloads



گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول

آز: شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطا قادری رضوی دامت بركاتہم العالیہ

● جتنا ہو سکے اپنی بھنویں (Eyebrow) پانی سے تر رکھے ● چولہے کا استعمال کم کر دیجئے ● ایک چھوٹا تولیا (Towel) گیل کر کے سر پر رکھنے کے لئے اپنے ساتھ رکھے ● دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجئے ● دھوپ میں نکلنا ہی ہو تو سر اور گردن ڈھانپ کر یا ہو سکے تو چھتری لے کر نکلتے ● دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے ● فوم کے گدیلے پر سونے سے پرہیز کیجئے ● روزانہ کم از کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پیجئے ● سٹو کا شربت، کھیرے کا جوس، ناریل کا پانی، گنے کا خالص رس، شہد ملا پانی، لیمو پانی اور نمکین چھاپھ استعمال کیجئے ● کدو شریف، بیگن، چھندر، مولی وغیرہ سبزیوں کا استعمال خوب بڑھا دیجئے ☆ کھانوں میں گرم تاثیر والے مسالوں کے بجائے ٹھنڈی تاثیر والے مسالے جیسے: ہلدی، دار چینی، ٹماٹر، دہی، آلو، ہر ادھنیا وغیرہ استعمال کیجئے ● گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ، ہری مرچ یا پیسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالئے ● چاول کا استعمال بڑھا دیجئے (پانی میں ابلے ہوئے چاول کھانا مناسب ہے) ● دہی کھچڑی گرمیوں کی بہترین غذا ہے ● آم، آڑو، خوبانی، آمرد، خربوزہ، تربوز، ناریل نیز دیگر موسمی پھلوں کا استعمال کیجئے ● بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لئے O.R.S. کا استعمال کیجئے۔ (ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں) ● گرم غذاؤں، زیادہ مٹھاس والے شربت، خوب میٹھی ڈشوں، کولڈ ڈرنکس، زیادہ گھی تیل والے کھانوں اور دیر میں ہضم ہونی والی غذاؤں نیز کیفین (Caffeine) والی اشیا مثلاً چاکلیٹ، وغیرہ کا استعمال کم سے کم کیجئے ● ٹھنڈی تاثیر والے عطریات مثلاً شامیہ العنبر، جنا، گلاب، صندل، موتیا، خس، کیوڑا، چمپا وغیرہ استعمال کیجئے ● مشک، کستوری، عود، عنبر، زعفران، وغیرہ گرم تاثیر والے عطریات سردیوں میں استعمال کرنا زیادہ مناسب ہیں ● دن میں دو مرتبہ نہانا مفید تر ہے۔ (ماخوذ از ”گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول“، ص 7 تا 12 مطبوعہ مکتبہ المدینہ)

ISBN 978-969-631-879-8



0132010



اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی تَمْلِیْخِ قُرْآن و سُنَّتِہِیْ عَلٰی غَیْرِہِیْ سَیِّئَاتِہِیْ حَرِکِ دَعْوَتِہِیْ اِسْلَامِیْہِیْ دُنْیَا کے 200 سے زائد ممالک میں 103 سے زائد شعبہ جات کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کے لئے کوشاں ہے۔



فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92

Web: www.dawateislami.net / Email: mahnama@dawateislami.net



MC 1286